

عظمتِ مصطفیٰ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

داعی تحریک خلافت پاکستان و امیر تنظیم اسلامی

ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ

کا ایک فکر انگیز خطاب

بمقام: فوریہ نزہاں لاہور، کیم جولای ۱۹۹۹ء

معزز حاضرین! آپ کو معلوم ہے میرا آج کا موضوع "عظمتِ مصطفیٰ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی شخصیت کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو آپؐ کا مقام و مرتبہ اور آپؐ کی عظمت بحیثیت نبی ہے اور ایک آپؐ کی عظمت اور آپؐ کا مقام رفع و بلند بحیثیت انسان ہے۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو رحمائیت کا ہے، یعنی آپؐ ﷺ کا مقام و مرتبہ روحانی اعتبار سے اور دوسرا پہلو عام انسانی معاملات کا ہے، جن میں سے انسان اپنی زندگی کے دوران لامحال گرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ عظمت محمدؐ کے یہ جو مختلف پہلو ہیں، ان میں بعض پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپؐ ﷺ کی عظمت کا بیان تو درکنار اس کا ادراک و شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ سادہ ہی مثال ہے کہ ایک معالجؐ ڈاکٹر یا حکیم کا اپنے فن میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ظاہر ہے اسے صرف کوئی ڈاکٹر، حکیم یا معالج ہی جان سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر کا اپنے فن میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی انجینئر ہی واقف ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک نبی کی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے، کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی انسان کا کسی ادارے یا فرم میں کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا صحیح تعین و ہی شخص کر سکتا ہے جو اس ادارے میں اس سے بالاتر ہو اس لیے کہ نیچے والا تو اور پر کی طرف صرف دیکھ گا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ مجھن کر سکے۔ ظاہر بات ہے نبی اکرم ﷺ سے بالاتر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ حضور ﷺ کے اصل مقام و مرتبہ کو سمجھ سکے، کجا یہ کوئی عام انسان اور غیر نبی حضور ﷺ کے مقام کا تعین کرے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور ﷺ کا مقام کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔

بعض اعتبارات سے خود حضور ﷺ نے اسے واضح کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ تم ان مقامات کو سمجھ سکو! مثال کے طور پر حضور ﷺ صوم و صال رکھتے تھے۔ صوم و صال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا اور وہی روزہ رات سے گزر کر اگلے دن تک چلا اور اگر اگلے دن شام کو افطار کیا تو یہ دونوں کا صوم و صال ہوا، اور اگر یہی روزہ تیرے دن تک چلا تو وہ تین دن کا صوم و صال ہو گا۔ نبی اکرم ﷺ خود صوم و صال رکھتے تھے لیکن آپؐ ﷺ نے اپنے ساتھیوں (صحابہ کرام ﷺ) کو یہ روزہ رکھنے سے روکے رکھا۔ اس پر کسی صحابیؓ نے سوال کر لیا تو آپؐ نے فرمایا: ((وَأَيْكُمْ مُشْلُّونَ)) "تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟" ((إِنَّ أَيْمَنْ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَبَسِقِينِي)) "میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔" (۱) ہمارے لیے کس طرح ممکن ہے کہ آپؐ ﷺ کی اس شب برسی کا تصور کر سکیں جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا تھی! وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا! معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور ﷺ کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کر سکے۔

ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقولیں، ہمارا فہم اور شعور و ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بھی بہت بڑی خطا ہے۔ یہ بڑی خطا کس اعتبار سے ہے؟ ایک سادہ ہی مثال سے بات سمجھ میں آجائے گی۔ کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کس شہری باپو نے حل کر دیا، وہ شہری شخص ڈپٹی کمپشنر تھا، لیکن اس

دیہاتی نے اسے دعا دی کہ خدا جسے پُواری بنا دے۔ اس لیے کہ اس دیہاتی کے زندگی کے توب سے بڑا عہدہ اور سب سے زیادہ صاحب اختیارِ حقیقتی پُواری کی تھی، کیونکہ اس کی ذرا سی جنبش قلم سے زمین کسی اور کے نام ہو جاتی ہے اور اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کاشت کا اور دیہاتی سے متعلق سارے اختیارات تو پُواری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ پُواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر کتنے عہدے درمیان میں ہیں اور وہ شخص کس بلند مقام پر فائز ہے جسے وہ دیہاتی پُواری بننے کی دعا دے رہا ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضور ﷺ کے مقامات عالیہ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور ﷺ کی توبہ کے مرتكب ہو جائیں۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کے مقام کا کما حقہ بیان ممکن نہیں۔ اور جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق بیان کریں گے جو حضور ﷺ کے اصل مقام و مرتبہ سے بہت کمتر ہو گا۔ اور اسی کا نام توبہ ہے۔ شیخ سعدیؒ نے نہایت سادگی کے ساتھ اس ساری بحث کو ایک رباعی میں سہودیا ہے۔

يَا صَاحِبَ الْجَمَادِ إِلَّا يَسِّدِ الْبَشَرَ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنْيِ رَأْقَدْنُ وَرَالْقَمَرَ
لَا يُمْكِنُكَنَ الْأَنْتَاءَ كَمَانَ حَقَّةً
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

حضور ﷺ کی شناکا جتنا حق ہے وہ ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ اہنذا ”لَا يُمْكِنُ الشَّنَاءَ كَمَا كَانَ حَقَّةً“، ہمیں بس یہ کہ اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“۔ اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی عظیم ترین و بلند ترین ہے، ہم اسے کس طرح اور کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور بلکہ ہمارا تحلیل بھی سرگوں ہے کہ وہ اس بلند و رفیع مقام کا ادراک اور شعور کر سکے۔ اسی بات کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے باس طور پر بیان کیا ہے۔

گزارشیں	غالب	شائے	خواجہ	بیزداں
کان ذات پاک	کان ذات پاک	مرتبہ دان	محمد ﷺ	است!

کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کی شاد و حمد کو خدا (بیزداں) کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے اصل مقام و مرتبہ سے واقف ہے۔

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کے قابل ادراک پہلو

میں نے دو اعتبارات سے آنحضرت ﷺ کی عظمت اور آپؐ کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا اعلیٰ وارفع اور اس اعتبار سے خارج فرار دیا ہے۔ البتہ ہماری سمجھ میں حضور ﷺ کی عظمت کا جو پہلو آ سکتا ہے وہ ہے آپؐ کی عظمت بحیثیت ”انسان“۔ لیکن اگر اس کا بھی تجزیہ کریں گے تو بحیثیت انسان بھی آپؐ کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ مثلاً حضور ﷺ کی بحیثیت اور آپؐ کا مرتبہ و مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کیا تھا۔ بڑے بڑے فوجی جرنیلوں سے پوچھئے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے مختلف غزوات میں جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں آپؐ نے کس مہارت کا ثبوت دیا، حالانکہ جنگ بدر سے پہلے آپؐ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے آپؐ نے صرف چند مہمات میں شرکت کی، باضافہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن دنیادنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب و معین کرنے میں آپؐ نے کس درجے صلاحیت و قابلیت کا ثبوت دیا۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہوتی تو صلح کی لگفت و شنید (negotiation) میں آپؐ نے کس مہارت، کیسی واقفیت اور کسی اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو یا شاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یہ رب کے مختلف طبقات کو آپؐ میں جمع کرنے کے لیے آپؐ نے جو معاهدہ فرمایا، ان معاهدات کا مطالعہ کیجیے، عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔

ایک قاضی القضاۃ کی بحیثیت سے آپؐ کا مقام کیا ہے؟ آج بھی اس دنیا میں ”قضا“ (Judiciary) کے سلسلے میں جس قدراصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب کے سب محمد رسول اللہ ﷺ کے عطا کردہ ہیں، مثلاً کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کیا جائے جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن نہ لیا جائے۔ یا اصول آپؐ کا بیان کردہ ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا، الزام لگانے والے کو نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے۔ اسی طرح یہ اصول آپؐ ﷺ کی نے بنایا ہے کہ سو مجرم چھوٹ

جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ عالمی سطح پر پو راعداً تھا نظام انہی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑہ غرق کر دیا ہے۔ ہماری خیانتیں بعد عنوانیاں، جانبداریاں، ہمارا بک جانا اور سیاسی لوگوں کا آلہ کار بن جانا وغیرہ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے عدیہ کا بیڑہ غرق کیا ہوا ہے، لیکن جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے یہ اصول تو محمد عربی ﷺ کے عطا کردہ ہیں۔

اس سے ذرا نیچے اتریے۔ حضور ﷺ کا بحیثیت باپ کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہؓ سے پوچھئے۔ حضور ﷺ کا بحیثیت شوہر کردار کیا تھا اور آپؐ کی کیا عظمت تھی؟ یہ حضرت عائشہؓ حضرت حصہ، حضرت اُم سلمہؓ سے پوچھئے۔ پھر یہ کہ ایک دادا ہونے کے اعتبار سے آپؐ کا کیا کردار تھا؟ یہ حضرت عمر وابو مکہؓ سے پوچھئے۔ گویا کہ جتنے انسانی علاقوں ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے آپؐ کی شخصیت کی عظمت اور کردار کی بلندی ہماری سمجھ میں آسکتی ہے۔

عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیتِ داعیِ انقلاب

اسی طرح ایک داعی کی حیثیت سے آپؐ کا کیا مقام ہے؟ ایک مردی کی حیثیت سے آپؐ کا کیا مقام ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آسکتی ہیں اور ہم ان کا کچھ نہ کچھ اداک و شعور کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حیثیتوں یعنی داعی، مردی، مزکی کو میں ایک لفظ میں جمع کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک انقلاب کے داعی اور انقلاب عظیم کے برپا کرنے والی کی حیثیت سے آپؐ کا مقام کیا ہے؟ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور ﷺ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپؐ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل اور اس کے نتائج مرتب کئے جائیں، اس کے لئے جو جدوجہد ہوئی اس کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعیت حضور ﷺ کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے آپؐ کی عظمت کا وہ پہلو جس کا اقتدار پوری دنیا نے کیا اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔

غیر مسلموں کا اعتراف اور شہادت

واقعہ یہ ہے کہ بیسویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ترین صدی ہے کہ سابقہ صدیوں کے دوران حضور ﷺ کی ذاتِ مبارک سے جو تھبب غیر مسلموں کو تھا وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے اور اس صدی کے دوران آپؐ کی عظمت کا اس پہلو سے اعتراف اور اقرار تدریجیاً پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں اسی شہر لاہور میں ایم این رائے نے ۱۹۲۰ء میں ”بریل لاہال“، میں (جواب شاید کھنڈرات کی صورت اختیار کر گیا ہو گا یا ہاں کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو گی) ایک لیپرڈ یا تھا جس کا موضوع ”The Historical Role of Islam“ تھا۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے جسے بھکتی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، میں نے حیدر آباد کن میں اس کا نسخہ دیکھا ہے، لیکن پاکستان میں کہیں دستیاب نہیں ہے۔ ایم این رائے کون تھا؟ یہ ”کیونٹ ائرٹیشن“ کا مبرر تھا۔ روس میں ۱۹۱۷ء میں اشتراکی انقلاب آیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہوا۔ اس کے بعد عالمی سطح پر کیونٹزم کی جو تنظیم قائم ہوئی وہ ”کیونٹ ائرٹیشن“ کہلاتی تھی۔ دنیا کے چوٹی کے انقلابی لوگ اس کے ممبر تھے۔ ایم این رائے ہندوستان کی جانب سے اس کا کتحا جو کہ بہت بڑا انقلابی تھا، لیکن وہ ”The Historical Role of Islam“ میں صاف صاف کہتا ہے اور بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی (ﷺ) نے برپا کیا تھا۔ حضور ﷺ کے جانشینوں اور جاہ شاروں نے جس سرعت کے ساتھ فتوحات حاصل کیں اور عراق، شام اور ایران، مصر جس تیزی کے ساتھ فتح کئے، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں فتوحات پہلے بھی ہوئی ہیں زیکر ڈپر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا تھا اور دریائے بیاس تک پہنچا اور جس تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرتے ہوئے آیا وہ اپنی جگہ بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے مشرق کی طرف آیا تھا جبکہ ایشیا مشرق سے مغرب کی طرف گیا تھا۔ چین کے شاہ میں محراجے گوبی سے نکل کر وہ ڈینور کی وادی تک جا پہنچا تھا۔ لیکن ایم این رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتوحات مخفی ہوں ملک گیری کا شاخانہ تھیں۔ اس نے انہیں ”brute military campaigns“، قرادیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی، کوئی علم کا فروع نہیں ہوا۔ جبکہ محمد عربی (ﷺ) اور آپؐ کے جانشینوں کے ذریعے سے شرقاً غرباً جو فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئیں ان کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، ایک نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروع وجود میں آیا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا۔ اس میں سیاسی جنگیں تھا، اس میں معاشری استھان نہیں تھا، اس میں کوئی سماجی فرق و تفاوت نہیں تھا جیسے کہ علامہ اقبال نے محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کہا ہے۔

در	شہستان	خلوت	حراء	گزید
قوم	و آئین	و حکومت	آفرید	

دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سالہا سال تک پہاڑوں کی غاروں کے اندر قپیائیں کرتے رہے ہیں، لیکن محمد عربی ﷺ نے غارِ حرام میں چند روز کے لیے جو خلوت گزینی اختیار کی تھی وہ اس قدر productive اور نتیجہ خیز تھی کہ اس سے ایک نئی قوم نیا تمدن، نیا آئین اور حکومت وجود میں آگئی ہے۔ یہ ہے آنحضرت ﷺ کی وہ عملت کہ جس کا اظہارِ ایم ایں رائے نے اس صدی کے ربع اول کے آخری سالوں میں کیا، جو مسلمان نہیں ہندو کیونٹ تھا۔

دوسری طرف اس صدی کے ربع آخر کے ابتدائی سالوں میں امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارت کی کتاب "The Hundered" ۱۹۸۰ء میں منظر عام پر آئی، جس میں اس نے پوری معلوم تاریخ انسانی کا جائزہ لیا ہے کہ تاریخ کے سفر کے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخ کے دھارے کاریخِ موڑا ہے۔ اس نے ایسے سو افراد کو چن کر اُن پر کتاب لکھی ہے اور ان کے اندر بھی درجہ بندی (Gradation) کی ہے کہ کس شخصیت نے سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کو متاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ گھمیبر انداز میں اسے موڑا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد ﷺ کو اس درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس کتاب کا مصنف تاحال عیسائی ہے اور ابھی زندہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کو تیرے نمبر پر لایا ہے جبکہ نیوٹن کو دوسرا نمبر پر لایا ہے۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طرح تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں۔ سائنس اور میکانیکوں کے پورے explosion کا نقطہ آغاز نیوٹن ہے۔ شخصیات کے انتخاب اور درجہ بندی میں متوافق نہ کوئی مزہبی پہلو و نظر نہیں رکھا، ہی اپنے عقائد کو پیش نظر رکھا ہے بلکہ اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑ نے والی کون کون سی شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں نمبر ایک پر محمد رسول اللہ ﷺ، نمبر دو پر نیوٹن اور نمبر تین پر حضرت مسیح ﷺ ہیں۔ مسلمانوں میں اس نے ایک اور شخصیت کو ان سو (۱۰۰) کی فہرست میں شامل کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک پچاسویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ اس نے خود سوال اٹھایا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے محمد ﷺ کو میں نمبر ایک پر کس اعتبار سے رکھ رہا ہوں؟ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے:

"This is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields."

یہ بہت گھمیبر اور معانی خیز جملہ ہے۔ لیکن اس سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کی عالمی فضائل انسانی زندگی کو دو جگہ اگانے گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیت سے نہیں ہے بلکہ صرف افراد سے ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ جس کو چاہے مانے جس پر چاہے یقین رکھے ایک خدا کو مانے، سو کو مانے، کسی کو نہ مانے۔ فردوں کی پوری آزادی حاصل ہے جسے چاہے پوچھئے پھر وہ کو پوچھئے درختوں کو پوچھئے ستاروں کو پوچھئے چاند کو پوچھئے یہاں تک کہ اعضاً اتنا سل کو پوچھئے ٹھیک ہے اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی ہے۔ اس میں مراسم عبودیت (rituals) کے علاوہ کچھ سماجی رسومات (Social customs) کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً بچ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی خوشی کیسے منائیں، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی میت کو کیسے ٹھانے لگائیں؟ جلاں میں دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چل اور کوئے کھا جائیں، وغیرہ۔ اس کی بھی ہر شخص کو آزادی ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں عقیدہ (dogma)، مراسم عبودیت (rituals) اور سماجی رسوم (Social rituals) انفرادی زندگی سے متعلق ہیں۔ دوسری طرف معاشرتی، معاشری اور سیاسی نظام کا تعلق زندگی کے سیکولر میدان سے سمجھا جاتا ہے جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر لوگ خونگور کریں گے ان کے نمائندے بیٹھیں گے اور طے کریں گے اور وہ بیٹھ کر کاشتیت سے جو طے کر لیں وہی سماجی اقدار فروغ پا جائیں گی۔ جو بھی اکثریت سے طے کر لیں کہ یہ سماجی برا بیاں ہیں، ان کا وہ قلع قلع کریں گے۔ اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں تو دیں اگر اگر شراب پر پابندی لگانا چاہیں تو پابندی لگائیں۔ زنا کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو دے دیں گے اگر زنا بالرضاء ہے تو اس میں کوئی جرم والی بات ہی نہیں۔ اگر اس میں کسی شوہر کا حق مارا گیا ہو تو وہ جائے اور سول مقدمہ دائر کر دے۔ اسی طرح اگر چاہیں گے تو دو مردوں کی شادی کو بھی قانونی حیثیت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے ایک شخص ملکی قانون میں شوہر کی حیثیت اور دوسرਾ شخص بیوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا سماجی، معاشری یا سیاسی معاملات میں سے کسی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ secular field of life ہے۔

اب نوٹ کیجیے کہ ڈاکٹر ماہیل ہارت کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں حتیٰ عظیم شخصیات ہیں وہ اگر ایک پہلو سے بلندی کی حامل ہیں تو دوسری طرف ان کا سرے سے کوئی مقام نہیں، ممکن ہے وہ کسی معاملے میں صفر ہوں، بلکہ شاید ان کے لیے کوئی minus value معین کی جائے۔ مثلاً مشرق میں گوم بدھ اور مغرب میں حضرت مسیح علیہ السلام دونوں کی مذہب اور روحانیت کے میدان میں اور پیر و کاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے، لیکن ریاست اور معاملات ملکی میں ان کا کوئی مقام اور کوئی حصہ نہیں، اس میں وہ دونوں صفر تھے۔ اسی طرح دوسری طرف ایشیا ہو سکندر اعظم ہو یا اور بہت بڑے بڑے حکمران جو دنیا میں گزرے ہیں، یہ سیکولر میدان میں تو بہت بلندی پر ہیں لیکن مذہبی میدان میں اس درجے پر تھی کا خوار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صفر سے بھی کام نہ چلے بلکہ منفی (minus) ویلولانی پڑے۔ سکندر اعظم کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی منفی (minus) ویلولانی پڑے گی۔ مائیکل ہارت کا کہنا یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ایک ہی انسان (The only Person) ہے جو دونوں میدانوں میں انہائی بلندی پر ہے۔

He is the only person supremely successful in both the religious and secular field.

یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مقابل کیا ہو گا؟

یہ میں نے آپ کو صدی کے اُس سرے سے دو مثالیں دی ہیں۔ اب ذرا صدی کے درمیان سے بھی مثال دے دوں۔ H.G.Wells برطانوی سائنسی فلسفہ کی حیثیت سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے بڑے اچھے اچھے ناول اور کہانیاں لکھیں جن میں اس نے یہ reflect کیا کہ سائنس کو ہر جا رہی ہے۔ سائنس کی جو ایجادات اور جو اکشافات ابھی ہونے تھے ان کو پہلے سے visualize کر کے ان پر اس نے اپنی کہانیاں اور ناول کے بنیادی خاکے اور پلاس کوئی کیا۔ لہذا وہ Short History of the World“، اور Scientific fiction کے اعتبار سے مشہور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں ”Concise History of the World“، لکھیں۔ مؤخرالذکر کتاب زیادہ سخت ہے اور اس میں آنحضرت ﷺ پر جو باب ہے اس میں اس نے اپنے (میں اپنے دل پر جر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ) ابتداء میں حضور ﷺ کی ذاتی، خی و خانگی زندگی پر نہایت ریکیک حملے کئے ہیں۔ یوں سمجھنے جیسے دلمعون نام اُنکلینڈ میں سلمان رشدی اور بگلہ دیش میں تسلیم نہ رین، نے آنحضرت ﷺ کی شخصیت پر جس قدر چھینٹے اڑائی ہیں اسی طرح کے چھینٹے H.G.Wells نے حضور ﷺ کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی کے حوالے سے اڑائی ہیں، لیکن جب وہ اس باب کے آخر میں پہنچتا ہے اور خطبہ جنت الوداع کا ذکر کرتا ہے تو آنحضرت ﷺ کی عظمت کے سامنے گھٹنے ملک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ آپؐ کے الفاظ نقل کرتا ہے:

((لَا فَضْلَ يَعْرَبِي عَلَى الْأَعْجَمِيِّ وَلَا يَعْجَمِي عَلَى عَرَبِيِّ وَلَا حُمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالنَّقْوَى))

((الناس كلهم بتو آدم وآدم خلق من تراب))

”لوگو! کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں! اسی طرح کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور اسی طرح کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں! فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔“

ان جملوں کا وہ باقاعدہ حوالہ دیتا ہے اور پھر لکھتا ہے:

”Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before. We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Mohammad who for the first time in history established a society based on these principles.“

”اگرچہ انسانی حریت، مساوات اور اخوت کے وعدتو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت سے مواعظ حسنة ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ صرف محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بالغ ایک باضابطہ معاشرہ انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا۔“

آپ اندازہ سمجھیے کہ یہ دشمن کا خراج تھیں ہے جو کہ معتقد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے جر کر کے بتایا ہے کہ وہ شخص اتنی بڑی حمافت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ”سمجھ میں نہیں آتا کہ (معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر فرنباشد) محمد مجیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ، ابو بکر، عثمان اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے۔“ حالانکہ اس حق سے کوئی پوچھنے کے اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے۔ درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تم مجھے میں ہو جبکہ تمہیں حضرت خدیجہ، ابو بکر، عمر، عثمان وعلیٰ السلام کی عظمت کا اعتراض و اقرار ہے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی عظیم شخصیتیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گرد کیسے جمع ہو گئیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ذاتی طور پر کتنا عناد، بغض اور دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حقیقت کے اعلان و اعتراض پر مجبور ہے کہ محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاں انسانی حریت و اخوت و مساوات کے صرف و معظیم ہی نہیں ملتے بلکہ آپ نے ان اصولوں پر با فعل ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ حق ہے کہ ”الفضل ما شهدت به الاعداء“، یعنی اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا اعتراض و اقرار دشمن بھی کریں۔ گویا جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے۔ ظاہر بات ہے جنود سوت ہے، عقیدت مند ہے اور محبت کرنے والا ہے اس کی لگاہ تو محبوب کی کسی خامی کو دیکھی ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے تو گویا وہ نایماں ہو جاتی ہے جبکہ دشمن میں کوئی خیر اور خوبی نظر نہیں آتی، لیکن اگر کوئی دشمن کسی کی فضیلت کا اعتراض کرے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ آنحضرت ﷺ کی مدح میں H.G.Wells نے اپنی کتاب میں یہ جملہ جو لکھ دیئے تھے انہیں کتاب کے موجودہ مرتبین اور نئے ایڈیٹر نے حذف کر دیا ہے۔ یہ جملہ ان کے حلق سے نیچہ نہیں اترپائے۔ H.G.Wells کو توفوت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ”Concise History of the World“ کا جو نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے اس میں وہ جملے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ یہ وہ کمزی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچہ نہیں اترپائی۔ لیکن آپ کو پنجاب پلک لا بھری یا کسی اور پرانی لا بھری سے یہ پرانے نئے نئے جائیں گے جس میں مذکورہ بالا الفاظ موجود ہیں۔

انقلاب نبوی کا دیگر انقلابات سے مقابل

محمد رسول اللہ ﷺ کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں، جس کا لواہ آج پوری دنیا مارہی ہے اور جس کا اکتشاف پورے عالم انسانی پر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین، گھمیز ترین، جامع ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب برپا کیا اور یہ انقلاب کم از کم وقت میں برپا کیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ نہیاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جدوجہد کی ابتداء سے لے کر اختتام تک جتنے مرحلے بھی آئے آنحضرت ﷺ نے اس کے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری خود ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے مقابل کر لیجیے کہ تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کے خاتمے اور جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، جو سادہ سو برس قبل کی بات ہے۔ انقلاب روں یعنی بالشویک انقلاب بھی یقیناً ایک عظیم انقلاب تھا، جو ۱۹۱۴ء میں آیا۔ اگرچہ ستر برس کے اندر اندر اس انقلاب کی موت واقع ہو گئی لیکن کھنڈر باتا ہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلتے ہوئے روں سے لاطینی امریکہ تک جا پہنچا۔ لکھنی عظیم توسعہ بھلی کی سی سرعت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں:

- (۱) دونوں جزوی انقلاب ہیں۔ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا باتی عقائد، رسومات، سماجی نظام، سماجی اقدار، معاشی نظام اور تمام معاشری ادارے اسی طرح قائم رہے۔ سیاسی نظام کے سوابقی زندگی جوں کی توں رہی۔ دوسرا طرف بالشویک انقلاب کے ذریعے معاشری ڈھانچہ بدلت گیا، اس میں انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں آگئے، لیکن ملک مکمل تبدیل نہیں آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جیسے پہلے کریمین موجود تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی بعد میں رہے۔ سماجی اقدار بھی وہی رہیں۔ سارے نقشے جوں کا توں رہا، بس معاشری انقلاب آ گیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھئے محمد عربی ﷺ کا لایا ہوا انقلاب کس قدر جامع اور گھمیز ترین تھا۔ یہاں آپ خورد ہیں لگا کر دیکھ لیجیے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو سابقہ حالت میں باقی رہ گئی ہو؟ جواب نہیں میں ملے گا۔ عقائد و نظریات بدلت گئے، شخصیتیں بدلت گئیں، اخلاق بدلت گئے، ان کے شب و روز کے انداز بدلت گئے، صبح و شام بدلت گئے، نشست و برخاست کے انداز بدلت گئے، پھر یہ کہ سماجی نظام سیاسی نظام اور معاشری نظام بدلت گیا۔ وہ قوم جس میں پڑھے لکھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گئے جاسکتے تھے وہ علوم کے موجود ہو گئے، دنیا کے استاد بن گئے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے علوم ہندو یونان سے لیے اور انہیں ترقی دے کر پورے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ کا انقلاب ہمہ گیر ترین، جامع ترین اور عظیم ترین انقلاب تھا۔ انقلاب محمدی کے مقابلے میں انقلاب روں اور انقلاب فرانس کی کیا بحیثیت ہے؟ چنست خاک را بامل پا ک!

(۲) فرانس اور روس کے انقلابات بلکہ دنیا کے دوسرے تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قد رہشتہ کہ ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار اور مصنفوں تھے وہ مردمیان نہیں تھے چنانچہ وہ انقلاب کی عملی جدوجہد میں سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت بنائی اور نہ آگے بڑھ کر انقلابی جدوجہد کی قیادت کی۔ وہ تو صرف people of the desk تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر قیادت وزیر اہتمامی وجود میں آیا، کیونکہ انقلابی فکر فراہم کرنے والے میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس براخونی انقلاب کہلاتا ہے، کیونکہ قیادت کوئی نہیں تھی، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا اور اس نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا اور پھر اچا نک وہ لا وا پھٹ پڑا۔ کیونکہ کوئی تنظیم نہیں تھی اور کوئی قیادت نہیں تھی لہذا انتہائی خونی انقلاب آیا۔ روس میں بالشویک انقلاب کی بنیاد "Das Capital" نامی کتاب بنی جو کارل مارکس اور انجنز نے مشترک طور پر لکھی۔ اندازہ کیجیے کہ یہ کتاب کتنے ٹھوس دلائل پر مبنی ہو گی کہ اس نے کس طرح انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لیا اور کس طرح ساری تعبیرات کو بدلت کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں پوری حیات انسانی کی خالصتاً مادی تعبیر کی گئی ہے اور مذہب و روحانیت کی بالکل نفی کی گئی ہے، لیکن اس کتاب کے دلائل نے لوگوں اس طرح اپنی گرفت میں لے کر انہیں تحرک کیا کہ لوگ جانیں تک دینے کو تیار ہو گئے اور انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال نے یونہی نہیں کہا کہ

”میست پغمبر ولیکن در بغل دار دار کتاب!“

تو واقعاً اس ایک کتاب نے یہ باشویک انقلاب برپا کیا ہے جس کے مصنف مارکس اور انجنز تھے۔ ان دونوں نے اپنی یہ کتاب جمنی اور لندن میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جمنی اور لندن میں کوئی انقلاب واقع نہیں ہوا۔ پھر یہ دونوں مصنفوں اپنی زندگی میں اپنی قیادت اور سرکردگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپانہیں کر سکے۔ انقلاب توہاں سے ہزاروں میں دور باشویک پارٹی کے ذریعے روس میں آیا۔ اور جس طرح انقلاب ایران سے پہلے خمینی صاحب فرانس میں جلاوطنی کی زندگی لزار رہے تھے اور انہوں نے عین وقت پر آ کر ایران میں ہونے والے پنگاموں کی قیادت سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر یمن نے آ کر اس تحریک کو ہائی جیک کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔

اس تناظر میں دیکھئے کہ محمد عربی ﷺ نے ایک فردوادحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ ﷺ فکر دینے والے تھے، آپ ہی دعوت دینے والے تھے، آپ ہی مکی گلیوں میں گھوم پھر کرتلئے کر رہے تھے: ((يَأَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُو)) ”اے لوگو! کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، کوئی الہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔“ آپ ہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں اور کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے ہوئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک فردوادحد اور داعی کی حیثیت سے سامنے آئے اور کل بائیس برس میں پورے جزیرہ نماۓ عرب میں انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خوف فرمائی۔ وہی گلیوں میں تبلیغ کرنے والے غزوہ بدر میں کمانڈر ہیں، غزوہ احمد میں وہی سپسالا رہیں۔ جیسے کہ میں نے ماں کیلے ہارث کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی کوئی نظریہ یا مثال ہی نہیں۔ کیونکہ گلی کو چوپ میں تبلیغ کرنے والے تو یہی کام کرتے رہ جاتے ہیں، مربی اور مزکی کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس چل کر آئیں، ان کی خانقاہ میں طالب بن کر آئیں تو ان کا کچھ تزریکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن یہ منظر چشمِ فلک نے ایک ہی بار دیکھا ہے کہ ایک فردوادحد کردارے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے اور اس مرحلے پر ظاہر کیسی کسی ناکامیاں سامنے آتی ہیں۔

جب پہلی مرتبہ حکم ہوا: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأُقْرَبِينَ ﴾(الشراء)﴾ (۱۶) (اے نی!) اپنے قربی رشتہ داروں کو خبر دار کیجیے، تو آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو جو کہ آپ کے زیر کفالت اور زیر تربیت تھے اور گھر بیوی سامان لانا اور اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا، حکم دیا کہ ایک دعوت طعام کا انتظام کرو اور تم بناہشم کو بلاو۔ چنانچہ دعوت کا اہتمام ہوا اور تمام بھی ہاشم جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے کھانا کھایا تو اب حضور ﷺ اپنی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے ہونگ کی کچھ نے فقرے چست کیے اور کچھ نے شور مچایا اور سارا جمع چلا گیا۔ حضور ﷺ اپنی بات کہہ بھی نہ سکے۔ یہ نہ سمجھتے کہ ادھر آپ نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے انقلابی جدوجہد کے اس اہم لکنے کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ جدوجہد خالص انسانی سطح پر ہوئی اور اس میں وہ سارے مراحل آئے جو کسی بھی انسانی جدوجہد میں آتے ہیں۔ چنانچہ ابتدائی طور پر ناکامیاں اور مایوسیاں بھی آئیں، بے پناہ محنت اور مشقت کا تجھے مریٰ طور پر صفر کھائی دیتا تھا۔

لیکن حضور ﷺ نے چند دن کا وقفہ دے کر حضرت علیؓ سے دوبارہ فرمایا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آگئی ہو، آخر تی شرافت تو ان لوگوں کے اندر بھی تھی کہ دو دفعہ ان کے دست خوان پر کھانا کھایا ہے، اب آخر ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی بات سن لیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے دعوت پیش کی۔ آپ نے

نهایت عظیم، مختصر مرجامع اور نہایت مکث طبیعی پیش کیا۔ ہر حال لوگوں نے سن لیا اور پورے مجمع کو سانپ سونگی کیا کہ کوئی نہیں بولا۔ اس پر حضرت علیؓ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری تائیں پتی ہیں، اگرچہ میری انکھیں دھکتی ہیں، لیکن میں آپؐ کا ساتھ دوں گا۔ (حضرت علیؓ کوآ شوب چشم کا عارضہ بچپن ہی سے تھا، معلوم ہوتا ہے کہ مگر وہ کام رخ چاہو بچپن ہی سے شروع ہوتا ہے۔ مختلف جنگوں کے موقع پر حضرت علیؓ کی آنکھ دھکتی تو حضور ﷺ اپنا عابد ہنگا دیتے جس سے انہیں کچھ سکون حاصل ہوتا اور پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکتے۔) حضرت علیؓ کی بات سن کر پورا مجمع کھلکھلا کر نہیں پڑا کہ یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے ہیں اور یہ ہیں ان کے ساتھی! اور انور بیٹے کی یہاں سے محمد رسول اللہ ﷺ کی جدوجہد کا آغاز ہو رہا ہے۔

اس کے بعد حکم آتا ہے کہ «فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ» (اے نبی!) ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا آپؐ کو حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں تین سال تک حضور اکرم ﷺ نے انفرادی طور پر ذاتی رابطے کے ذریعے دعوت کو پھیلایا۔ تاہم یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور ﷺ کی ذاتی زندگی میں خفیہ دعوت کا کوئی دو نہیں آیا، آپؐ نے کوئی بات خفیہ طور پر نہیں کی، آپؐ کی کوئی زیر میں سرگرمیاں نہیں تھیں۔ البتہ profile low امیں ذاتی رابطوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی، لیکن اب حکم آگیا: «فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ» یعنی ”اے محمد!“ اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو آپؐ کو وہ صفا کی بس علامت باقی رہ گئی ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں وہ باقاعدہ پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کہ جس کے پیچھے کوئی شکر بھی چھپ سکتا تھا۔ وہ صفا پر چڑھ کر آنحضرت ﷺ نے عرب کے مرقد و ستور کے مطابق قوم کو ندا دی۔ یہیں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت و ابالغ کے لیے اپنے زمانے میں جو بھی مردہ طریقے ہوں ان سب کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ البتہ اگر جیسا اور شرافت کے منافی کوئی شے ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ اس دور میں غارت گری اور لوٹ مار کے لیے قابل ایک دوسرا پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ یہ حملہ عام طور پر رات کو ہوتا، بلکہ رات کے بھی پچھلے پہر small hours of the morning میں، یعنی رات کے دو تین چار بجے جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے۔ اس وقت سوئے ہوؤں پر آ کر ٹوٹ پڑنا اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا، یا ان کا ایک عام رواج تھا۔ لہذا کسی قبیلے کے کسی فرد کو اگر یہ اطلاع عمل جاتی کہ کوئی قبیلہ ان پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو وہ بلند مقام پر چڑھ کر کپڑے اتار کر مادرزاد بڑھنے کو رنگرہ لگاتا تھا کہ ”وَاصْبَاحَا“ (ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے) یعنی جس میں غارت گری، لوٹ مار اور کشت و خون ہو گا۔ اب اس میں دونوں صورتیں یعنی سمع اور بصری صبح ہو جاتیں۔ اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جاری ہوتی وہاں تک لوگ اس کی آواز کو سنتے اور دوڑے چلے آتے اور جہاں اس کی آواز نہیں جاری ہوتی تو وہ کھڑا ہو کر عریاں نظر آتا۔ اسی لیے اسے ”نذر عریاں“ کہا جاتا تھا، یعنی وہ خبردار کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا ہو۔ حضور ﷺ نے بھی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا اور وہ صفا پر چڑھ گئے۔ آپؐ نے اس طریقے میں صرف یہی کی کہ آپؐ نے کپڑے نہیں اتارے، کیونکہ ظاہر ہے یہ حیاد نظرت کے خلاف ہے اور آپؐ کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا، لیکن نعرہ وہی لگایا کہ ”وَاصْبَاحَا“۔

اب لوگ آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے آپؐ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپؐ اونچائی پر کھڑے تھے، آپؐ نے قوم کو اپنی دعوت پیش کی۔ اس پر آپؐ کا پچھا ابولہب کہنے لگا: ”تَبَّا لَكَ إِلَهُكُمَا جَمَعْتَنَا؟“ تمہارے لیے بلاکت و بر بادی ہو کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟“ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم واقعًا کوئی خبر دینے والے ہو کوئی بات بتانے والے ہو۔ نوٹ کیجئے کہ حضور ﷺ نے پہلے فرمایا کہ لوگوں میں اگر تمہیں یخربدوں کا اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا شکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی شکر چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ضرور، اس لیے کہ آپؐ پہاڑی کی بلندی پر کھڑے ہیں اور پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپؐ نے کہی جھوٹ بولائی نہیں، آپؐ تو اصدق اور الامین ہیں۔ آپؐ نے لوگوں سے پہلے یہ گواہی لے کر بات کی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے محابے سے خبردار کرتا ہوں۔ جس پر آپؐ کے چھانے کہا تھا کہ ”تَبَّا لَكَ إِلَهُكُمَا جَمَعْتَنَا؟“ اس پر پھر یہ سورۃ نازل ہوئی:

﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَّٰءِ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلُى نَارًا ذَاتَ لَهَّٰءِ ۚ وَأَمْرَأَهُ طَ حَمَالَةُ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيلِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ ۚ﴾

یہ میں نے آنحضرت ﷺ کی دعوت کے دو مناظر آپؐ کو دکھائے ہیں، اندازہ کیجیے کہ دل کو توڑ دینے والا آغاز ہے، انسان کے لیے کس قدر رہت شکن اور صبر آزماء ہے یہ معاملہ جس سے کہ آغاز ہوا ہے۔

دش برس کی محنت شاقد کا حاصل

الغرض حضور ﷺ کی پورے دش برس کی محنت و مشقت کو ذہن میں رکھئے کہ آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مرتب، مزکی اور معلم نہ پہلے پیدا ہوا تھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور ﷺ کی نظر حال مطلق ہے۔ آپ کی نظر کوئی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ لیکن مکہ میں آپ کی دش برس کی شب و روز کی محنت شاقد کا تصور کیجیے، جس میں دن کی مشقت کا یہ عالم ہے کہ «إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا» آپ دن کے اوقات میں گھوم رہے ہیں، گلی کوچوں میں بلع کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں اور رات کی یہ کیفیت ہے کہ «قُمْ أَيْلَ الْأَقْيلَابَ نِصْفَهُ أَوْ اَنْفُصَ مِنْهُ قَيْلَابَ أَوْ زُدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» آپ دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو گھر رے ہو کر جھوپی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پرو دگار! عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو میری جھوپی میں ڈال دے۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی دش برس تک شب و روز کی محنت شاقد کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوسا سویا زیادہ سے زیادہ ڈیر ہے سوافر ادا آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ۲۱۰ عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بھگ ۲۶۰ عیسوی کو حضور ﷺ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ کیونکہ اسی سال حضرت خدیجہ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار و فاشعار اور محبت کرنے والی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ باہر سے آدمی تکدر لے کر آتا ہے تو مونس غم خوار شریک حیات اسے زائل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کوئی پاگل کہتا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ہم پر دھونس جماعتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے جو بڑا عالم فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جانے والا ہے، یہ اس سے دکھن لیتے ہیں، اسے یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دھونس جماعتے ہیں۔ حضور ﷺ سب کچھ سنتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ ﷺ کا قلب انتہائی حساس تھا، اور یہ بتیں کہ آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ یعنی ”اے نبی! ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہد رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بخستا ہے“، آپ کو تکرر غم، رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہی تو وہ لوگ تھے جو کبھی میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی لوگ مجھے صادق اور امین کا خطاب دیتے تھے، یہ مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہی میں سے آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر، کوئی ساحر، کوئی مسحور اور کوئی کذاب کہہ رہا ہے (نقل کفر کفر نباشد) یہ سب کچھ سن کر آپ گھر آتے تھے تو گھر کوئی تسلی دینے والی تھی، لیکن اب وہ نہیں رہی تھی۔

آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعات بڑے اہم ہیں۔ جب پہلی وحی آتی تو حضور ﷺ پر ایک دہشت اور گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ ﷺ کی زندگی میں یہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ تھا جو عالم ملکیت کے ساتھ ہوا تھا۔ غارہ را میں جراحت میں سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس سے آپ ﷺ پر طبعاً گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ گھر آئے تو کانپ رہے تھے، پھر بخار ہوا اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ ”خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي“، یعنی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ ایسے میں وہی غم خوار اور بہت بندھانے والی زوجہ محترم تھیں جنہوں نے کہا کہ ”اللَّهُ أَعْلَمُ بِوُضُاعِنِيهِنَّ كَرَأَهُمْ“، آپ مگر مت کیجیے، آپ تیمور کی سر پرستی کرتے ہیں، یہاؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غربیوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ گو ضائع نہیں کرے گا۔

آنحضرت ﷺ کی پچیس برس تک کی زندگی بڑی محنت و مشقت اور افلاس میں گزری ہے۔ عین بچپن میں آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ حضور ﷺ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں چند گھوکوں کے معاوضے میں (علی قرار ایٹ) اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چاتا رہا۔^(۱) اس لیے کہ ابوطالب بہت ہی مفلس انسان تھے۔ حضور ﷺ کی سر پرستی تو وہ کر رہے تھے لیکن واقعی یہ ہے کہ خاندان ابوطالب کی پر و ش رسول اللہ ﷺ نے اپنی محنت و مشقت اور مزدوری سے کی ہے۔ پھر آپ نے ملازمت کی شکل میں تجارت شروع کی۔ یہ مشقت اور افلاس کے دن تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾^(۲) ”اللہ نے آپ کو تک دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔“ اللہ نے آپ کو غنی کس طرح سے کیا؟ پچیس برس کی عمر میں حضرت خدیجہ ﷺ سے آپ ﷺ کی شادی ہوئی جو عرب کی متول ترین خاتون تھیں۔ یہ شادی حضرت خدیجہ ﷺ کی اپنی فرماش پر ہوئی۔ آپ انتہائی محبت کرنے والی شریکہ حیات تھیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضور ﷺ کے پچیس سال کی عمر کے درمیان کہیں پیش آیا کہ حضور ﷺ ایک دفعہ کہیں مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے۔ مکہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان مختلف وادیاں ہیں، ایک وادی میں آپ نے دیکھا کہ کوئی قبیلہ آ کر پڑا وڈا لے ہوئے ہے جو انتہائی مفلوک الحال

ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ گھر آئے اور انہیں مول و عنیکین ہو کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب حضرت خدیجہؓ نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے۔ آپؓ نے فرمایا کہ میں فلاں وادی میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ پر اڈا لے ہوئے ہے جس کا حال یہ ہے۔ آپؓ نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ کیونکہ سرمایہ تو حضرت خدیجہؓ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ آپؓ جائیے اور قریش کے بڑے سرداروں کو بلا لائیے۔ حضورؐ نہیں بلا کر لائے تو اتنی دیری میں حضرت خدیجہؓ نے اشرافوں کا اتنا بڑا ذہیر لگا دیا کہ جب حضورؐ آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت خدیجہؓ نے سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سب گواہ ہیں، میں نے یہ ساری دولت حضرت محمدؐ کے حوالے کر دی ہے، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ حضرت خدیجہؓ ایسی یبوی تھیں، انہوں نے ہر طرح سے آپؓ کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہؓ کا کیا مقام تھا، ہم میں سے اکثر اس سے واقف نہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض مترمث خصیات کے مابین افضلیت کا جھگڑا ہے ع

اے گرفتار ابو بکر و علی ہشیار باش!

اہل سنت کے ہاں حضرت ابو بکرؓ کی افضلیت اور اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیؓ کی افضلیت مسلسل ہے اور دونوں اسی میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ اور حضرت فاطمہؓ کی افضلیت کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ حضرت عائشہؓ کو اور دوسرا گروہ فاطمہؓ کو بہت بلند کرتا ہے، لیکن حضرت خدیجہؓ الکبری کا ذکر اؤول تو کہیں ملتا نہیں، اور اگر کہیں ملتا بھی ہے تو بہت کم۔ دو تین سال پہلے جب میں ایران گیا تھا وہاں کے مشاہدات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے وہاں خواتین یونیورسٹی قائم کی ہے جس کا نام ”جامعۃ الزہراء“ رکھا ہے۔ انہوں نے اس یونیورسٹی کا نام حضرت فاطمۃ الزہراءؓ کے نام پر رکھا ہے۔ اس یونیورسٹی کے چوٹی کے سٹاف اور انتظامیہ سے جب ایک ملاقات میں نے کہا کہ کاش کہ آپؓ نے اس کا نام جامعہ خدیجہؓ الکبری (ؓ) رکھا ہوتا تو وہ چوٹی کے۔ میں نے کہا کہ دیکھئے سنیوں اور شیعوں کے مابین یہ تفریق ہے کہ جب بھی کوئی سنی پیشوں کا مدرسہ بنائے گا تو اس کا نام ”مدرسہ العائشہ للبنات“ رکھے گا، جبکہ شیعہ حضرت فاطمہؓ کے نام پر مدرسہ بنائے گا، لیکن حضرت فاطمہؓ کی والدہ حضرت خدیجہؓ جو صدیقۃ الکبری ہیں، ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے جس طرح صدیق اکبر حضرت ابو بکرؓ میں اسی طرح الصدیقۃ الکبری حضرت خدیجہؓ ہیں۔

حضرت مریمؓ کے بارے میں قرآن حکیمؓ میں ”صدیقۃ“ کا لفظ آیا ہے:

﴿وَأُمَّةٌ صِدِّيقَةٌ﴾۔ اس امت کی صدیقۃ الکبری حضرت خدیجہؓ ہیں۔

اپنا ایک احساس بیان کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی پیک پلیٹ فارم سے بیان نہیں کیا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی ذات میں حضورؐ کے لیے صرف یوں کی وفاداری و فاشعاری اور محبت ہی نہیں تھی، والدہ کی شفقت بھی تھی۔ حضورؐ بہت کم عمری ہی میں والدا و والدہ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہؓ حضورؐ سے عمر میں پدرہ برس بڑی تھیں۔ نکاح کے وقت حضورؐ پیچس سال کے تھے جبکہ حضرت خدیجہؓ چالیس سال کی تھیں۔ میری نانی میرے بڑے ماہوں سے صرف تیرہ سال بڑی تھیں، یعنی تیرہ برس کی عمر میں میری نانی کے ہاں پہلی ولادت ہو گئی تھی۔ جبکہ عرب کا معاملہ تو مزید گرم ماحول کا تھا۔ تو کیا پدرہ برس کی عمر میں حضرت خدیجہؓ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر ہوتی تو کیا وہ حضورؐ کے ہم عمر نہ ہوتے؟

حضرت خدیجہؓ کا ایک واقعہ مزید بیان کرتا چلوں۔ آغاز وحی کے بعد جبکہ حضورؐ کو عالم بشریت اور عالم ملکیت کے درمیان اتصال کا بینا تجوہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے آپؓ پر خوف کی سی کیفیت تھی اور ایک تشویش کا سامنا داز تھا تو ایک روز حضرت خدیجہؓ نے آپؓ سے کہا کہ اب جب وہ فرشتہ یاد روح جو بھی ہے، آپؓ کے پاس آئے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت جبراїلؓ آئے تو حضورؐ نے فرمایا کہ وہ آگئے ہیں۔ اب حضرت خدیجہؓ نے اپنے بال کھول لیے اور حضورؐ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پوچھا کہ کیا بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ آپؓ نے فرمایا: نہیں! اس پر حضرت خدیجہؓ نے کہا یقیناً یہ بدرود نہیں ہے، فرشتہ ہے، جس نے حیا کی ہے اگر کوئی بدرود ہوتی تو وہ لذت لیتی اور غائب نہ ہوتی۔ اب آپؓ ان کی عظمت فکر، سوچ اور شعور کی بلندی کا اندازہ سمجھیے۔

بہر حال سال ۱۰ نبوی میں حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال ابو طالبؓ بھی انتقال فرمائے۔ اس طرح قبائلی زندگی میں حضورؐ کو جو ایک تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہؐ نے اوس خزر ج اور مہاجرین کے درمیان پہلا معاہدہ کرایا تھا تو اس میں یہ سن بھی شامل تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہو گی۔ یہی معاملہ قبائل کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس حوالے سے

خاندان بناہم کی سرداری ابوطالب کے پاس تھی جو کہ آپؐ کو تحفظ دے رہے تھے۔ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو آپؐ سے طبعی محبت کی بنیاد پر انہوں نے حضور ﷺ پر خاندان بناہم کا سایہ کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر دوسرے قبیلے اور ان کے سردار حضور ﷺ کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو یہ کویا کہ بناہم کے خلاف اعلانِ جنگ ہو جاتا اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ دس برس تک کسی کو حضور ﷺ پر اقدام کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ابوطالب کے پاس سفارتیں لاتے رہے اور لاحق پیش کیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر انہیں دولت چاہیے تو ہم سیم وزر کے انبار گاہ دیتے ہیں، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگرچہ ہمارا مزان ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بادشاہ نہیں، لیکن ان کو ان لیسے کے اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے گھرانے میں کہیں گے شادی کر دیں گے۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ بچا جان! اچا ہے یہ میرے دامنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوتِ توحید سے باز آ جائیں ہمارے معبدوں کو برآ بھلانہ کہیں۔

جب جناب ابوطالب بستر مرگ پر تھے اس وقت قریش کی جانب سے آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ اے ابوطالب! اب بھی اگر تم اپنے بھتیجے کی پشت پناہی سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ہمارا اللہ میم ہے کہ میدان میں آ کر مقابلہ کرلو یا اپنے بھتیجے کو روک لو۔ اس پر ابوطالب نے حضور ﷺ کو بلا یا اور کہا: ”بھتیجے! مجھ پر اتنا بوجہ نہ ڈال جو میں برداشت نہ کر سکوں“۔ ظاہر بات ہے کہ اکیلا خاندان بناہم پورے قبیلے قریش کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ پھر خود ابوطالب نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور تقریباً مسٹر مرگ پر تھے۔ ابوطالب کی اس بات پر حضور ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ دنیا میں اس بابِ عالم کے اعتبار سے ایک ہی سہارا تھا وہ بھی آج جواب دے رہا ہے۔ تاہم آپؐ نے کہا: اب یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے پسپائی (retreat) کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہر حال عام الحزن کے سال میں ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بناہم کا سردار ابوالہب بن گیا جو خود انہیں زہر بیان تھا اور جس نے آغازِ دعوت پر ہی حضور ﷺ سے کہہ دیا تھا کہ ”تَبَّا لَكَ إِلَهَكَذَا جَمَعْتَنَا؟“ یہ وہ بدجتن شخص تھا جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور ﷺ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ آنحضرت ﷺ کی دو صاحبزادیوں کی نسبت ابوالہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ٹھیکی۔ اور وہاں تو نسبت کا طے ہو جانا ایک طرح سے نکاح ہی ہوتا تھا۔ ابوالہب کے اکسانے پر ان دونوں نے نہایت گستاخانہ اور توہین آمیز انداز میں آ کر حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہاری دونوں بیٹوں کو طلاق دیتے ہیں۔ حضور ﷺ نے یہ سارے صدمے جھیلیے ہیں۔

یوم طائف - حیاتِ طیبہ کا شدید ترین دن

ابوطالب کی وفات سے چونکہ حضور ﷺ کو حاصل وہ ظاہری تحفظ ختم ہو گیا تھا اور اب اندر یہ ہے کہ قریش دارالندوہ میں جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، لہذا آپؐ نے طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ یہ حضور ﷺ کی زندگی کا ہم ترین واقعہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپؐ کا شعب بنی بناہم کے اندر گھیرا اور مقاطعہ رہا اور کھانے پینے کی چیزیں روکی گئیں۔ اس دوران پورے خاندان بناہم کو بدترین قسم کی فاقہ کشی جھیلنی پڑی، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بناہم محمد ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اس پورے خاندان کا سماجی بایکاٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان بنی بناہم تین سال تک شعب بنی بناہم (جسے شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں) میں محصور رہا۔ ان تین سالوں کے دوران کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہیں جانے دی گئی۔ وادی کے دونوں اطراف میں پھرے لگادیے گئے چنانچہ کوئی وہاں جاہی نہیں سکتا تھا۔ حکیم بن حرام جیسا کوئی اللہ کا بندہ جو بنیادی طور پر نیک شخصیت تھی، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اور دوسرا نیچپر کچھادیتے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہؓ کے بہت قریبی عزیز تھے، ورنہ تو وادی کے دونوں سرروں پر پھرے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ بناہم کے پھول جیسے بچے بلکہ رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، سو اس کے کوئے کھوئے ہوئے چڑھے ابال کر پانی ان کے حلقت میں ٹپکا گیا۔

لیکن حضور ﷺ کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف تھا جس کی گواہی حضور ﷺ کے اپنے قول میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپؐ پر یومِ أحد سے بھی کوئی زیادہ دن سخت گزرا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے ہوش میں یومِ أحد کے دوران حضور ﷺ رُخی ہوئے، آپؐ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپؐ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپؐ کے زبان مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی کہ ((كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ حَضَبُوا وَ جَهَ نَبَيِّهِمْ بِالَّدَمِ))^(۷)، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے بنی کے چہرے کو خون سے رکھیں کر دیا۔ پھر یہ کہ ستر صحابہؓ شہید ہو گئے جن میں اسدُ اللہِ وَ اسدُ رَسُولِہؓ

حضرت حمزہؑ بھی شامل تھے جو آپؐ کے چپاڑا خالہ زاد دودھ شریک بھائی اور ساتھ میں کھلی ہوئے ہجولی بھی تھے۔ ان کی لاش آپؐ کے سامنے آئی تو دیکھا کہ ناک، کان، کٹھے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کیا جب چلایا گیا ہے۔ حضرت عائشہؓ کے نزدیک سخت ترین یومِ احد تھا۔ لیکن حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپؐ کے سے ماہیں ہو کر طائف گئے اور نوٹ کیجیے کہ یاد موقع جہاں نظر آتا ہے کہ ابو بکرؓ بھی حضور ﷺ کے ساتھ نہیں ہیں ورنہ وہ تو سامنے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت تھی۔ اس موقع پر صرف آپؐ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہؓ آپؐ کے ساتھ تھے جو منہ بولے بیٹھی قرادے دیئے گئے تھے۔ کے سے طائف کے لیے دورستے ہیں، آج بھی آپ وہاں جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنائی ہو گی۔ آپؐ نے عام راستے سے گریز کرتے ہوئے دشوار گزار پہاڑی راستے اختیار فرمایا۔ اس لیے کہ عام راستے پر تو خطرہ ہو سکتا تھا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ غالباً دارالنحوہ میں حضور ﷺ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔

طائف جا کر آپؐ نے وہاں کے تین سرداروں کے سامنے اس امید پر اپنی دعوت پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قول کر لے اور ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں اور یہ میرا درايجہ بت بن جائے۔ لیکن حکمت خداوندی اور مشیتِ الہی میں یہ شرف یہ رب کے لیے طے تھا، طائف کے مقدار میں نہ تھا۔ لیکن حضور ﷺ اپنی سوچ چھار کے حوالے سے طائف پہنچے۔ تیوں سرداروں نے لیکھ سے پار ہونے والے جواب دیئے۔ ایک نے کہا یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ، اگر تم واقعی رسول ہو اور میں نے کوئی توبین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ دوسرا نے کہا مکہ اور طائف میں تمہارے سوا اللہ کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ قرآن عکیم میں ان کے یہ دل آزار الفاظ نقل کئے گئے ہیں: «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٌ» (الزخرف)۔ ”یعنی ان دو بستیوں میں کوئی شخص بڑی عظمت والا ہوتا، اس کی جائیداد میں بھی ہوتی اور طائف میں بھی، ایسا شخص اللہ کو نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ تم جیسا مغلوک الحال یتیم شخص جس کا اپنا کوئی ذاتی سرمایہ نہیں تھا، کوئی سرمایہ تھا تو وہ بھی یہوئی کا تھا، یہ شخص اللہ نے چنانے ہے؟ بہر حال آپؐ ان سے ماہیں ہو کر واپس روانہ ہونے لگے تو ان بد بخنوں نے گلیوں کے آوارہ چھوکروں کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے پھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہؓ نے اس پھراؤ کا آگے ڈھال بن جانے کی پوری کوشش کی، لیکن زید بن حارثہؓ اگر سامنے سے آ کر حضور ﷺ کے آگے ڈھال بننے تو وہ پیچھے سے پھراؤ شروع کر دیتے اور اگر وہ پیچھے جاتے تو سامنے سے پھراؤ شروع کر دیتے۔ تاک تاک کر تھنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا گیا۔ آپؐ ﷺ کی پنڈ لیاں بھی زخموں سے چور ہو گئیں۔ خون بہہ کر نعلین کے اندر جا کر جم گیا۔ وہاں سے آپؐ نکلے ایک جگہ ٹھہرے تو حضور ﷺ کی زبان مبارک پر فریاد آگئی:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْا ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقَلَّةِ حِيلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّيْ إِلَى مَنْ تَكِلُّيْ؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ أَمْ إِلَى عَدُوِّ مَلَكَتِهِ أَمْرِيْ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىَّ غَصَبٌ فَلَا أَبْلَيْ! وَلَكِنْ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقْتَ لَهُ الظَّلْمَلْمُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِيْ غَضَبُكَ أَوْ تَحْلَّ عَلَيَّ سَخْطُكَ، لَكَ الْعُتْبَىْ حَتَّى تَرْضِيَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ!

”اے اللہ! میں تیری ہی جناب میں اپنی بے بی وسائل و ذرائع کی کمی اور لوگوں میں میری جو رسوائی ہو رہی ہے، اس کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی! اے پروردگار! تو مجھے کن کے سپرد کر رہا ہے؟ وہ دور داراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کہ وہ مجھے تنہیہ مشق بنا لیں! یا تو نے میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا؟ پھر بھی اگر مجھ پر تیراغصہ نہیں ہے تو مجھے ان بالتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو، تیری عنایات تو مجھ پر بے پایاں ہیں۔ میں تیرے پھرہ انور کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیارے دور ہو جائیں اور جس کے پرتو سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہو جائے، اس سے کہ مجھ پر تیراغصہ بھڑکے یا تیراغصب ٹوٹے، منانا ہے، اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ قابو ہے نہ زور ہے، مگر تیری ہی مدد سے۔“

گویا پہلے آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریدا کی، اس کے بعد آپؐ ﷺ نے مقام عبدیت والی بات کی۔ محمد رسول اللہ ﷺ و عبده و رسوله، والی دو نسبتیں حاصل ہیں، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، یعنی سر تسلیم ختم کر دینا کہ کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ چنانچہ عرض کیا: (إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىَّ غَضَبُكَ فَلَا أَبْلَيْ) ”اے اللہ! (اس سب کے باوجود) اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں!“ گویا سر تسلیم ختم ہے جو مزاج یار میں آئے!

اندیشہ ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو۔ جیسے ابتداء میں وحی کی آمد کا سلسلہ رُک گیا تھا تو آپؐ لو اندر یہ لاملاحت ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں:

﴿وَالصُّحْيِنَةِ وَالْأَلْيَلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَعْكَ رِبْكَ وَمَا فَلَىٰ وَلَلْأَخْرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾

اسی کو فارسی میں کہتے ہیں ”عشق است ہزار بدگانی“ یعنی جہاں عشق و محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بڑی جلدی بدگانی بیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں محبوب کسی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اسے میری کوئی بات ناگوار تو نہیں گز رکی۔ ہر حال خواہ کچھ بھی ہو اس سب کے باوجود اگر مجھ پر تیر انقضب نہیں ہے تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔

سفر طائف ذاتی طور پر محمد رسول اللہ ﷺ پر ابتلاء و آزمائش، امتحان اورختی کا نقطہ عروج ہے۔ مولا نما نظر احسان گیلانی نے اپنی تصنیف ”النبی الحاتم“ میں اسے سیرت طیبہ کا ایک اہم موڑ (Turning Point) قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو خصوصی حفاظت اور protection حاصل ہوئی۔ لیکن طائف سے فوری طور پر واپسی کے بعد عالم اسباب میں حضور ﷺ کا معاملہ یتھا کہ آپؐ کے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں آپؐ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، داخل ہوں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ اور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو پکا ہو تو ایسا اقدام کرنے والے کوئی جرم والازم نہیں، اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ حضور ﷺ طائف لے تھے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ نوٹ کیجیے میں یہ نہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ کی عالم اسbab میں ساری جدوجہد قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی۔ چنانچہ عالم اسbab کو استعمال کرتے ہوئے آپؐ نے ایک مشرک اور کافر کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں لے کے میں آ جاؤں۔ ابھی میں بتاچکا ہوں کہ قبائلی زندگی کا یہ اصول تھا کہ اگر ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان ہو جائے گی۔ لیکن اس کا فرنے انکا کر دیا۔ پھر آپؐ نے زید بن حارثہ کو ایک دوسرے شخص کے پاس بھیجا، لیکن اس نے بھی انکا کر دیا۔ تیر شخص مطمئن بن عدی شریف انفس تھا۔ اس کے پاس آپؐ کا پیغام پہنچا تو اس نے کہا آپؐ میری امان میں ہیں آ جائیں۔ آپؐ نے کہلا بھیجا کہ یوں نہیں، آؤ اور خود کے رکاوے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ حضور ﷺ ایسے ہی کے میں داخل ہو جاتے اور کچھ لوگ آپؐ پر میل پر فوری طور پر حملہ آور ہو جاتے تو وہ بعد میں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیا علم کر انہیں مطعم بن عدی نے امان دی ہے۔ آپؐ نے اس درجے دنیوی اسbab اختیار کئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عالم اسbab ہے اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسbab کے اندر رہتے ہوئے اور ان اسbab کو بروئے کار لائکر کرنی ہے۔ لہذا آپؐ نے ایک مشرک و کافر کی امان لینا قبول کی۔ اور پھر مطعم بن عدی تھیمار سجا کر اپنے چھبیسوں کو لایا اور یہ کہتا ہوا آیا کہ میں نے محمد ﷺ کو امان دی اور آج سے محمد ﷺ میری امان میں ہیں۔ تب حضور ﷺ کے میں داخل ہوئے۔ حضور ﷺ اوس کے احسان کا انتا پاس تھا کہ غزوہ بدر میں جو ستر قیدی حضور ﷺ کی قید میں آئے ان کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان کی سفارش کرتا تو میں ان ستر کے ستر قیدیوں کو چھوڑ دیتا لیکن مطعم بن عدی کا اس دورانِ انتقال ہو چکا تھا اور وہ حالتِ کفر و مشرک میں رہا۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کی جدو جہد کے پہلے دس برس کی جملک دھائی ہے۔ حضور ﷺ کی انقلابی جدو جہد کا عرصہ نہیں بر سر ہے۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل ۸ ہجری میں ہوئی جب کہ اور طائف فتح ہو گیا اور غزوہ حین میں آپؐ کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح عرب میں انقلاب برپا ہو گیا۔ لہذا کے کے بارہ برس اور مدینے کے آٹھ برس شامل کر لیجیے تو یہ میں برس ہوئے۔ اس عرصے کو دھنیوں میں تقسیم کریں، دس سال ادھر اور دس ادھر۔ پہلے دس سال کا حاصل میں نے آپؐ کے سامنے رکھا ہے کہ کل ۱۲۵ یا ۱۱۵ افراد ایمان لائے اور طائف سے واپسی پر آپؐ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپؐ کے میں اپنے مل پر قیام کر سکتے۔ لہذا آپؐ ایک کافر و مشرک کی امان لے کر مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے۔ یہ دس برس کی محنت شادق ہے۔ لیکن اگلے دس برس میں اسلامی انقلاب نہایت تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔

بیعت عقبہ اویٰ و بیعت عقبہ ثانیہ

طائف سے واپسی کے بعد اسی سال ایامِ حج میں آپؐ کے سے باہر مختلف وادیوں میں ٹھہرے ہوئے حاجیوں سے ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ آپؐ کو پیش سے آئے ہوئے چھ حاجی مل گئے۔ آپؐ نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ یہ چھ حاجی قبیلہ خزر ج سے تھے۔ پیش ب کے یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب نبی آخرا لزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور جب ان یہودیوں کے قبیلہ اوس اور خزر ج سے جھگڑے ہوتے تھے اور وہ ان قبائل سے مار کھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبائیے ہو، لیکن دیکھو! نبی آخرا لزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر کلڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو

گے۔ یہودیوں کی یہ باتیں اہل یہب کے کانوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ لہذا جب یہب سے آئے ہوئے ان حاجیوں کے سامنے حضور ﷺ نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ یہودی حضور ﷺ پر ایمان لاتے قبلہ خرزج کے دھچا آدمی ایمان لے آئے۔ واپس مدینے جا کر انہوں نے تھوڑی بہت دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں اگلے سال حج کے موقع پر بارہ آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ و معلم اور مقری دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، کیونکہ آپ سے تو ہماری ملاقات اب اگلے سال ہوگی۔

آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، قتل و غارت کا خطرہ رہتا تھا اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے صرف اشہر حرم، یعنی حج کے مہینوں میں امن و امان ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ لہذا انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیجیے۔ قرعہ قال حضرت مصعب بن عسیر ﷺ کے نام نکلا اور آپ نے انہیں یہب سے آئے ہوئے حضرات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم کو جو نبیا تھے یہب بھیج دیا۔ ان دونوں حضرات نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اس لگن سے لوگوں کو قرآن پڑھایا کہ حضرت مصعب کا نام ہی "مقری" پڑ گیا تھا۔ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال پھر (۵۷) آدمی کما آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی؛ جس کے نتیجے میں یہب کی طرف ہجرت کا راستہ سکھل گیا۔ ان ۵۷ افراد میں اوس اور خرزج کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ ان دونوں قبائل کی بحیثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدی سے اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی اور مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے بقیہ صحابہ کو تو ہجرت کی اجازت دے دی لیکن خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت نامہ ملنے کے منتظر ہے۔

اس ہمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ سفر ہجرت کے لئے بالکل تیار تھے اور آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور ﷺ اب ہجرت کی اجازت آگئی؟ آپ فرماتے "ابھی نہیں آئی"۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روزانہ ریافت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے عجیب نقشہ دیکھا کہ عین دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا اور ڈھانہ ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت کسی کے ہاں جانا اور ملاقات کرنا ناج پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کھی تھی، کیونکہ یہ قبول کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اس وقت حضور ﷺ کی آمد پر حیران ہوئے۔ آپ نے آکر پہلی بات یہ فرمائی کہ ہجرت کی اجازت آگئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے طور پر دو اونٹیاں (ایک اپنے لیے اور ایک حضور ﷺ کے لیے) تیار کی ہوئی ہی اور انہیں کھلا پلا کر خوب موٹا کیا ہوا تھا تاکہ خوب تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں کام آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوشی کے انداز میں عرض کیا کہ حضور امیں نے سفر کے لئے دو اونٹیاں تیار کر کھی ہیں۔ آپ نے ذرا توقف کے بعد فرمایا: "ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا"۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حضور ﷺ کی محبوس سے بھی یہ مفارکت ای حضور ﷺ کی غیرت و جمیت اور خودداری تھی۔ بہر حال مدینے کی طرف سفر ہجرت ہوا۔

مکی دور میں دعوت، تربیت و ترقی، تنظیم اور صبر محض، یہ چار چیزیں یہی وقت چلی ہیں۔ "صبر محض" تیاری کا دور ہے کہ جب تک اتنی طاقت ہے کہ کفر کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکیں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو بھیل اور برداشت کرو اور صبر کرو۔ اس مرحلے پر کوئی جوابی کارروائی نہ کی جائے۔ یہ حضور ﷺ کی کامیابی کے ہمن میں آپ گئی دوراندیشی اور معاملہ فہمی کا انہائی نازک معاملہ تھا۔ وحی جلی یعنی قرآن مجید میں کوئی حکم ایسا نہیں آیا تھا کہ اپنے ہاتھ بند ہے رکھو۔ لیکن اس حکم کا تذکرہ بعد میں سورۃ النساء میں باس طور کیا گیا:

﴿إِنَّمَا تَرَى إِلَيَّ الَّذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الرَّزْكَهُ طَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفِتَنَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ﴾

﴿كَخَشِيشَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ حَشْيَةً وَقَالُوا رَبِّنَا مَمْكُنَتْ عَلَيْنَا الْفِتَنَ حَلَّ لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَيْ أَجَلِ قَرِيبٍ حَ﴾ (النساء: ۷۷)

"کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو زکوڑا کرو! (اس وقت بعض لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے) اب جو انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرانا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر رکھتے ہیں خدا یا ہم پر جنگ کا حکم تو نے کیوں لکھ دیا ہمیں تو نے کچھ مزید مہلت کیوں نہ دے دی؟"

مکی سورتوں میں اس حکم کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے ہاتھ بند ہے رکھنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ حضور ﷺ پر وحی جلی ہی نہیں وحی خفی بھی آتی تھی۔ اس سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کا اپنا تذہب اور آپ کی اپنی تدبیر تھی۔ حضور ﷺ کی اپنی سوچی تکمیلی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جو ابھی

تعداد اور وقت میں تھوڑی ہے، اگر وہ پُرتشد ہو جائے تو وہ کل دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پُرتشد کے باوجود صحابہ کرام ﷺ پرتشد نہیں ہوئے۔ حالانکہ انہیں ستایا اور مارا جا رہا تھا، انہیں گھروں میں نظر بند کیا جا رہا تھا، انہیں بھوکا پیاسا سار کھا جا رہا تھا۔ خاص طور پر غلاموں پر انہائی پُرتشد کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمار ؓ کے والدین حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ؓ کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ انہائی حکیمانہ اور انہائی مدبراہہ انداز ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس مرحلے پر اگر کہیں جوابی کارروائی ہو جائے تو باطل قوتون کو ہمیں کچلنے کا پورا جواہر مل جائے گا۔ ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنی بنیاد (Base) کو سچ، مضمون اور مضبوط کریں۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے ع

با نشہ درویش در ساز دما دم زن!

یعنی درویش کا انداز اختیار کرو اور اس سے موافقت اختیار کرو اور اسی انداز پر محنت اور کوشش کرتے رہو۔ آخوند دعوت و تبلیغ بھی تو درویش ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر کسی نے تھپٹ بھی مار دیا تو وہ اس کو جواب میں تھپٹ نہیں مارے گا۔ درویش یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے باوجود کوئی جوابی کارروائی نہ کی جائے اور اپنے ہاتھ بند ہے رکھے جائیں، ذاتی مدافعت (Self Defence) میں بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیئے جائیں۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارشد ؓ سے کہا گیا کہ کرتہ تارو انہوں نے اتار دیا، ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پر دکھتے ہوئے انگارے بچھے ہوئے تھے۔ اب حضرت خباب سے کہا گیا کہ ان انگروں پر لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ گئے۔ اس لیے کہ صبر محنت اور ہاتھ بند ہے رکھنا محمد عربی ﷺ کا حکم تھا۔ ورنہ یہ کہ آدمی اگر مایوس ہو جائے کہ میرا تو یہ کہاب بنانے چلے ہیں اور وہ انداز کرنے پر آجائے تو وہ پار کو مار کر ہی مرے گا۔ بلی کو بھی اگر آپ کارز کر لیں اور سے محسوس ہو کہ میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تو وہ آپ پر حملہ اور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک انسان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے زندہ کو بھوننے لگے ہیں تو وہ اگر کوئی کارروائی کر دے تو وہ چار کو مار کر مرے گا، لیکن محمد عربی ﷺ کی انقلابی جدوجہد میں صبر محض کے مرحلے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔

کے کے بارہ برس دعوت و تبلیغ، تربیت و تکریہ اور تنظیم کے مراحل میں گزرے، جس کا نقطہ عروج بیعت عقبہ ثانیہ ہے، جس میں حضور ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ سے عہد لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت ؓ روایت کرتے ہیں:

((بَأَيْعَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالطَّاعَةُ فِي الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمُكْرَهِ وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ
أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْتَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمٌ))

”ہم نے اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت کی تھی کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے کہ خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ طبیعت آمادہ ہو اور خواہ نہیں اپنی طبیعتوں پر جر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جگہ ٹوکرے گے نہیں (ان سے تعاون کریں گے) اور جہاں بھی ہوں گے حق بات (اور صحیح مشورہ) ضرور پیش کریں گے، ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“

یا ایک عظیم بیعت تھی جس سے ایک تنظیم وجود میں آئی۔

داخلی استحکام کی خاطر اقدامات

مدینے میں آ کر آپ نے داخلی استحکام کی خاطر چھ مہینے میں تین کام کیے:

- ۱) مسجد نبوی کی تعمیر کی جس سے ایک مرکز بن گیا۔ اب یہ دارالاندرونہ بھی تھی اور دارالمشاورت بھی یہ دارالامارہ بھی تھی اور دارالاصلاح بھی تھی۔ یہی دارالتعالیٰ، دارالترکیہ اور دارالاحسان بھی تھی۔ اسے آپ خانقاہ درس گاہ، تربیت گاہ، عبادت گاہ، ایوان حکومت، عدالت اور پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں۔ الغرض مسجد نبوی کی شکل میں ایک مرکزو جو دیں آ گیا۔
- ۲) حضور ﷺ نے انصار اور مجاہدین کے مابین ”مواختات“ قائم کر کے انہیں بھائی بھائی بنادیا تا کہ اسلامی جماعت کے دو حصے مر بوط ہو جائیں۔
- ۳) حضور ﷺ نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لیا کہ اگر مدنیے پر باہر سے حملہ ہو تو اس کا سب مل کر جواب دیں گے۔

مستشرقین کی کوتاہ نظری

یہاں میں آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ مستشرقین نے اپنی کوتاہ نظری کے باعث رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے ملی اور مدنی دور کے طرزِ عمل کو مفہماً دریا دیا ہے۔ چنانچہ تائن بی (Toynbee) نے حضور ﷺ کے بارے میں ایک بڑا ہر بھرا جملہ کہا تھا:

"Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesmen."

یعنی محمد ﷺ نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، لیکن بحیثیت سیاست دان کامیاب ہوئے۔ کئے میں دعوت و تربیت، ترکیہ اور صبر محض کا جو نقشہ تھا اس کے نزدیک انیاء کا کام بھی ہوتا ہے۔ یہی کام تین سال تک حضرت عیسیٰ ﷺ نے کیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ محمد ﷺ جب کے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے (معاذ اللہ) مدینہ کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ مستشرقین بھرت مدینہ کو "Flight to Madina" کہتے ہیں، حالانکہ یہ رانہیں تھا، بلکہ ایک تبادل مرکز (Alternate Base) کی طرف منتقل تھی۔ پہلے آپ ﷺ نے تبادل مرکز کی تلاش میں طائف کا سفر اختیار فرمایا تھا، لیکن مشیت ایزدی کچھ اور تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبادل مرکز (Alternate Base) مدینے کی شکل میں عطا کیا۔ انقلابی جدوجہد میں اقدام کے مرحلہ کے آغاز کے لیے مدینہ کی حیثیت ایک Base کی تھی۔

برطانوی پروفیسر ملتکمری واٹ، جسے ضیاء الحق صاحب نے خاص طور پر پاکستان بلا یا تھا، نے سیرت محمد ﷺ پر دو تائیں لکھی ہیں:

1- Muhammad at Makka

2- Muhammad at Madina

اس نے ان دونوں کتابوں میں اپنے تبیں رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے مقضا پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ کے والامحمد ﷺ کچھ اور ہے مدینے والا کچھ اور۔ کے والامحمد ﷺ تو داعی، مبلغ، مزکی، اور درویش ہے اور اس کی سیرت میں واقعتاً نبیوں والا نقشہ نظر آتا ہے جبکہ مدینے والا محمد تو ایک مدبر، منظہم، سٹیشنمن، سیاست دان اور سپہ سالار ہے۔ اس کے نزدیک یہ دونوں شخصیتیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ "Muhammad at Madina" میں اس نے حضور ﷺ کے لیے مدح اور تعریف کے تمام مکانہ الفاظ کو جمع کر لیا ہے۔ آپ ﷺ دوراندیشی، معاملہ فہمی، آپ ﷺ کی صحیح تجھ صورت حال کے بارے میں صحیح صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ ﷺ کی انسان شناسی اور ہر انسان کی ذہنی سطح کا اندازہ کرتے ہوئے اس سے اس کی سطح پر بات کرنا اور ہر انسان سے اس کی صلاحیت واستعداد کے مطابق کام لے لینا جیسی تمام خصوصیات کا ذکرہ اس نے کھلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے حضور ﷺ کی موقع شناسی، تدبیر اور سیاست وغیرہ کے جتنے بھی اعلیٰ ترین اوصاف ہیں ان کا ذکر افضل افضلی (Superlative) کے صینے میں کیا ہے۔ اس سے ایک مسلمان دھوکا کھاتا ہے کہ یہ کتاب حضور ﷺ کی تعریف میں لکھی گئی ہے، حالانکہ درحقیقت وہ تضاد (contrast) بیان کر رہا ہے کہ بحیثیت سیاست دان (statesman) تو آپ ﷺ کے یہ اوصاف ہیں جبکہ بحیثیت نبوبی آپ ناکام ہو گئے اور آپ ناکام ہوئے اور آپ گوئے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ وہ زہر ہے جو اس نے گھولा ہے۔ لیکن حضور ﷺ کی معاملہ فہمی، دوراندیشی اور statesmanship کا اس نے گھٹنے بیک کر اعتراف کیا ہے۔ حضور ﷺ کے انہی اوصافِ عالیہ کا شاہکار بیان مذینہ تھا، جس میں آپ ﷺ نے مدینہ میں آباد یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو پابند کر لیا۔ اگرچہ بعد میں وہ ایک ایک کر کے غداری کے مرتبہ ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ غداری بھی کرتے تھے تو چھپ چھپ کر اور ڈرتے ڈرتے، کیونکہ وہ اس معاهدے میں جائز ہوتے تھے، کھلے عام انہیں ان سرگرمیوں کی جرأت نہیں تھی۔ لہذا درپرده واژشیں کرتے رہے وہ کبھی کے والوں کو ابھارتے، کبھی کسی اور کو۔ بعد میں اس معاهدے کی خلاف ورزیوں کے سبب یہودیوں کے تینوں قبائل بنو قیقاع، بنقریظہ اور بنظیر مدینے سے نکال دیئے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کی طرف سے چھاپی مار گھوول کا آغاز

حضور ﷺ نے مدینے میں ابتدائی چھ مہینے مذکورہ بالاتین کاموں کے لیے صرف کیے اور ساتویں مہینے آپ ﷺ نے چھوٹے چھوٹے چھاپے مار دستے کے کی طرف سیجنے شروع کر دیے۔ اب یہ باطل کچلنے دینے کا انداز ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے پہلے آپ ﷺ نے ایسی آٹھ مہین روانہ کیں۔ بدقتی سے سیرت کی وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھیں ان کے مؤلفین نے ان واقعات کو اہمیت نہیں دی اور انہیں چھپایا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی ان کو نقل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ رسول اللہ ﷺ

کے ان اقدامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہوا، قریش مکہ کی طرف سے نہیں۔ جبکہ یورپی استعمار کے دور میں ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو ہمارے پھیلا ہے ۶

”بُوَيْ خُونَ آتٍ هُوَ إِسْ قَوْمٍ كَمَا أَنْتَ“

اور یہ تو جنونی اور جنونی لوگ ہیں یہ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے ہیں۔ مغرب کی طرف سے چونکہ مسلسل یہ پروپیگنڈہ ہو رہا تھا لہذا ہمارا اندماز معدود تھا جو ائمہ سا ہو گیا تھا کہ ”نہیں! حضور ﷺ نے تو جنگ نہیں کی، آپ نے تو دفاع کیا ہے، آغاز تو کفار کی طرف سے ہوا تھا۔“ یہ بات صدیقہ غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور ﷺ کو اللہ نے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے سے مدینے وہاں کے خلتناوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس جدو جہد کے لگلے مرعلے یعنی اندام کی تیاری کے لیے Base فراہم کیا تھا۔ آپ اگلے مرعلے کا آغاز زیادہ سے زیادہ چھ مہینے موخر کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں، اس سے زیادہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ لہذا آپ نے اپنی پوزیشن مستحکم ہوتے ہی اقدام کا آغاز فرمادیا، اور یہ سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا۔ آپ کی آٹھ مہماں غزوہ بدر سے پہلے ہیں۔ ان میں چار غزوات ہیں جن میں حضور ﷺ خود کی شریک ہوئے اور چار سرایا ہیں جن میں حضور ﷺ خود کی شریک نہیں ہوئے۔

ان مہماں کا مقصد ایک تو قریش کو چلیج کرنا اور دوسرا مکہ کی معاشی ناکہ بندی (Economic Blockade) تھا کیونکہ اہل مکہ کی معاش کا دار و مدار کلیتاً تجارت پر تھا۔ ان کے تجارتی قافلے شمالاً جو باختر کرتے تھے۔ شمال میں شام کی طرف جانے والا قافلہ بدر سے ہو کر گزرا تھا۔ بدر میں سے اسی (۸۰) میل کے فاصلے پر ہے اور کے سے دو سو میل کے فاصلے پر۔ لہذا مسلمانوں کی زد میں تھا۔ ادھر جنوب کی سمت میں جو قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا وہ ادنیٰ خلہ سے ہو کر گزرا تھا جو مکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کم از کم تین سو میل کا ہے۔ لیکن آپ نے ادنیٰ خلہ میں بھی ایک ہم روانہ فرمائی۔ ان ہمبوں کا مقصد قریش کو یہ بتا دینا تھا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو جدید اصطلاح میں مکہ کی معاشی ناکہ بندی کہیں گے۔ ان مہماں سے آپ نے جو دوسرا مقصد حاصل فرمایا وہ قریش کو سیاسی طور پر الگ تھلک کرنا (Political Isolation) تھا۔ حضور ﷺ ان چار ہمبوں کے دوران جن میں آپ نفس نفیس شریک تھے، جہاں بھی گئے آپ نے علاقائی قبائل سے معاہدے کیے۔ چنانچہ وہ قبائل جو پہلے قریش کے اتحادی تھے اب یا تو حضور ﷺ کے اتحادی ہو گئے یا انہوں نے غیر جانبداری کا معاملہ کیا کہ ہم نہ قریش کے خلاف آپ کے ساتھ دیں گے اور نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گے۔ لیکن ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کے سیاسی اثر و سوچ کا دائرہ سکڑنے لگا اور محمد ﷺ کے سیاسی اثر و سوچ کا دائرہ بذریعہ پھیلنے لگا۔ قرآن مجید میں جودہ میانی دور کی کلی سورتیں ہیں ان میں سے سورۃ الانبیاء میں یہ آیت آئی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَاهُمْ زِمْرَةَ الْأَرْضِ نَفْعُلُهُمْ مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ (آیت ۲۲)

”کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟“

یعنی ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے کی کی طرف لا رہے ہیں۔ کی دوسری یہ میں ان قبائل میں بھی اسلام پھیلانا شروع ہو گیا تھا۔ اب گویا کہ اسلام کے کی طرف دوسرا قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو حضور ﷺ کا سیاسی اثر و سوچ بدھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹنا چلا گیا۔

غزوہ بدر: مسلح تصادم کا آغاز

رسول اللہ ﷺ کے ان اقدامات کے نتیجے میں نگ آمد جنگ آمد کے مصدق قریش کا ایک ہزار کا شکر نکلا جس کی دوفوری وجود ہو گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ خلہ میں آپ نے جو گروپ بھیجا تھا اس کی ٹھیکر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گئی اور جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا اور مسلمان ایک کو اسیر بنانے کے علاوہ مال تجارت بھی چھین کر لے آئے۔ اب کے میں شورج گیا کہ محمد ﷺ کہ یہ جرأت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ بھرت کے بعد پہلا قتل تھا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا تھا۔ ثانیاً حضور ﷺ نے قریش کے اس تجارتی قافلے کا پچھا کر کے اسے روکنے کی کوشش کی تھی جو ابوسفیان کی سرکردگی میں شام جاری تھا، لیکن یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں نج کلا تھا۔ قافلے کی واپسی کے وقت ابوسفیان کو زیادہ اندیشہ لاحق ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جس میں ایک ہزار

اوٹوں پر کروڑوں کام تجارت لدا ہوا تھا۔ چنانچہ ابوسفیان نے قریش کو ہنگامی پیغام بھیجا کہ مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں سے خطرہ ہے کہ وہ حملہ کر کے ہمیں لوٹ لیں گے، الہذا فوری مدد کیجو۔ دوسری طرف ابوسفیان نے خود استبدال لیا اور بدر سے ہو کر گزرنے کے بجائے نیچے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گیا۔ ادھر مکہ میں ابوسفیان کا ہنگامی پیغام پہنچا اور ادھر سے لوگ روتے پیٹتے اور کپڑے چاڑتے ہوئے آگئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہے تو اس کے نتیجے میں قریش کے مشتعل مزان (Hawks) کا پلڑا من پنڈ لوگوں (Doves) پر بھاری ہو گیا۔ هر قوم میں ہوتے ہیں۔ ہر صورت میں لڑنے مرنے پر تیار ہونے والے Hawks کھلاتے ہیں اور جنگ سے گریز کا مشورہ دینے والے Doves کھلاتے ہیں۔ قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے۔

Hawks میں ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کا کہنا یقیناً کہ چل کر مدینے پر فوج کشی کرو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دو۔ دوسری طرف ان میں Doves بھی تھے جن میں ایک بزرگ شخصیت عتبہ بن ربیعہ بھی تھا جو بدر کے میدان میں پہلا مقتوول ہے، لیکن وہ بہت شریف انسان تھا۔ دوسرے حکیم بن حرام تھے، جو شاید اندر ہی اندر ایمان لا پکے تھے، لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، وہ بھی بہت شریف انسان تھے۔ یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ اب بلاہمارے سر سے ٹل گئی ہے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے اب تم محمد کو بقیہ عرب کے حوالے کر دو، اس لیے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے، تو جو عمل ہمارا ہے، وہی سارے کے سارے عرب کے لوگوں کا ہو گا، کیونکہ سب مشرک اور بت پرست ہیں۔ اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان سے کشمکش ہو گی اور جس میں اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان پر غالب آگئے تو ہمارا کیا جائے، وہ بھی تو قریشی ہیں، خوبی سے ہیں، گویا کہ پورے عرب پر قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر بقیہ عرب نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ختم کر دیا تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تواریخ میں اپنے بھائیوں کے خون سے نکلنے نہیں کرنے پڑیں گی۔ آخر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی تو بنی ہاشم سے ہیں۔ بہر حال جب یہ دو چیزیں سامنے آگئیں تو Doves بے بس ہو گئے اور Hawks طبل جنگ بجادیا۔ چنانچہ وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور ایک ہزار کا لشکر کیل کا نئے سے لیس کر کے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔

ایک اور بات نوٹ تکمیل کی جو کفار عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور ادھر سے حضور ﷺ ہی تین سوتیرہ کی فنری لے کر آگئے تو لشکر مکہ کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو نج کر نکل گیا ہے۔ چنانچہ حکیم بن حرام اور عتبہ بن ربیعہ بن ابی جہل کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا قافلہ بحفاظت نج کر نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ خون ریزی رک سکتی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے ابو جہل کو قاتل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ پیش ہبھی کی کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اس کا خون بہا میں ادا کرتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو نج کر نکل ہی گیا ہے، الہذا ہمیں اس خونریزی سے بچنا چاہیے۔

اس پر ابو جہل نے مقتول کے بھائی کو بلا کر کہا کہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے عرب کے روانج کے مطابق کپڑے چاڑے اور پیچنے لگا کہ مجھے تو قصاص اور بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے! مزید یہ کہ ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا کہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ سامنے ہے۔ ایک عرب کے لیے تو یہ بہت بڑا طعنہ تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو کل معلوم ہو گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور مبارزت طلب کی۔ ادھر سے تین انصاری صحابی مقابلہ کے لیے نکلے۔ عتبہ نے پوچھا: کون ہوتم؟ انہوں نے کہا: انصاری مدنہ۔ عتبہ نے کہا: نہیں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑتا ہے، ہم ان کا شکست کاروں سے لڑنے نہیں آئے۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ (رضی اللہ عنہ) نے اپنے باپ کے مقابلے میں نکلا چاہا لیکن حضور ﷺ نے روک دیا۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث (رضی اللہ عنہم) نکل کر میدان میں آئے اور پہلا قاتل حضرت حمزہ (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھوں عتبہ کا ہوا۔ اس طرح وہی شخص جو جنگ روکنا چاہتا تھا، لیکن بزدلی کا طعنہ برداشت نہیں کر سکا، سب سے پہلے وصال جہنم ہوا۔ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے شیبہ کا کام تمام کیا۔ پھر دونوں لشکر باہم مکاریے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور اس دن کو "یوم الفرقان" قرار دیا گیا۔

یہاں سے حضور ﷺ کی انقلابی جدوجہد آخري مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہ "مسلح تصادم" جس کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا، چھ سال جاری رہا۔ آپ کی حیاتِ طیبہ کے بارہ سال دعوت و ترکیہ، تنظیم اور صبر محض (کُفُوا أَيْدِيْكُمْ) کے مرحل میں گزرے۔ یہ کے باوجود برس تھے۔ مدینہ میں آ کر آپ نے پہلے چھ مہینے میں اپنی پوزیشن مختکم کی، اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال کے دوران قریش کے خلاف مہمیں بھیجن جن کے نتیجے میں یہ مسلح تصادم شروع ہوا۔ اس طرح گویا کہ سماں کوبل میں سے نکلا گیا۔ میں یہ

بات جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ مکہ تو حرم ہے، وہاں جا کر کشت و خون کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا قریش کو وہاں سے نکالنا یہی ہی تھا جیسے کہ سانپ کو بل سے نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردان کچلی جائے۔ چنانچہ بدر میں ان کے چوٹی کے ستر سردار مارے گئے جس سے ان کی کمرٹوٹ گئی۔ اس کے بعد چھ سال تک مسلسل جنگ اڑی گئی، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر، غزوہ الحرمہ، غزوہ الحشر وغیرہ ہوئے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے پوری تیاری کی تھی۔ افراد کو تیار کیا تھا، ان کا ترکیہ کیا تھا، ان کے اندر لوگ پیدا کر دیا تھا کہ ہر چہ بادا باد جانیں دینے کو تیار ہیں، انہیں نظم کا خوگر بنادیا تھا۔ پھر ان کی للہمہت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ۔

شہادت	ہے	مطلوب
نہ	نہ	متضد
مال	غیمت	کشور
کشائی!		

یہ ساری تیاری کر کے آپ میدان میں آئے تھے۔ پھر مسلح تصاصم کا دوسرا شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا»

انقلابِ اسلامی کی توسعہ و تصدیر کا مرحلہ

۸ ۱۹۸۶ء میں اندر وطن ملک عرب انقلابِ اسلامی کی تکمیل ہو گئی۔ البتہ اس کے بعد کامر محلة سمجھ لیجیے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے آخری مرحلہ انقلاب کی توسعہ اور تصدیر ہوتا ہے اور یہ اس کا لیٹس ٹیسٹ (litmus test) ہے۔ حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی، قومی اور ملکی حدود کے اندر محدود نہ رہے بلکہ پھیلتا جائے۔ اس لیے کہ انقلابِ نظریے کی بنیاد پر پہاڑتے ہے اور نظریہ کو پاسپورٹ درکار ہوتا ہے نہ ویزا۔ جیسے ہوا اور بادل بغیر کسی رکاوٹ کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اسی طرح نظریہ بھی جائے گا۔ نظریہ پھیلے گا تو انقلاب کی توسعہ ہوگی۔ جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہہ لیکن کسی حدود کے اندر محدود رہ جائے وہ حقیقی انقلاب نہیں بلکہ اسے صرف ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے۔ اگرچہ ظاہری انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی اور علماء کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن یہ حقیقی انقلاب نہیں، کیونکہ اس کی توسعہ نہیں ہو سکی۔ اس کو پاکستان برآمد کرنے کی کوشش کی تھی اور یہاں کے اہل تشیع نے ۱۹۸۶ء کے انقلاب ایران کے بعد جارحانہ انداز اختیار کیا تھا، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یا پھر یہ انقلاب سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ عراق میں ایکسپورٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ملحت بھی ہے اور وہاں کی بچپن فیصلہ آبادی شیعوں پر مشتمل ہے، لیکن وہاں بھی خمینی صاحب سے strategic غلطی ہوئی اور دونوں ملکوں میں تصاصم ہو گیا اور صدام حسین نے بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے عرب اور عجم کی اڑائی کارنگ دے دیا اور اس طرح گویا عرب نیشنلزم اور ایرانی نیشنلزم مدمقابل آگئے۔ ہر حال کسی بھی انقلاب کا صحیح لیٹس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ علاقائی حدود سے باہر نکلتا ہے یا نہیں۔ انقلابِ فرانس صرف فرانس تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا میں جمہوریت کا دور آیا۔ انقلابِ روس لاطینی امریکہ اور کیوباتک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی ﷺ کے انقلاب کا بین الاقوامی اور عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا جس کا آغاز حضور ﷺ نے خود فرمایا۔ چنانچہ صرف جزیرہ نماۓ عرب تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنس نہیں خود فرمائی، بلکہ اگلے مرحلے میں انقلابِ محمدی کی توسعہ و تصدیر کے بین الاقوامی اور عالمی مرحلے کا آغاز بھی آپ نے فرمادیا۔

اس ضمن میں تین باتیں نوٹ کیجیے کہ جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے «إِنَّ فَتْحَنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينًا» قرار دیا، حضور ﷺ نے یہ دن عرب نہ کوئی داعی اور مبلغ بھیجا اور نہ ہی کوئی نامہ مبارک روانہ فرمایا، بلکہ پوری توجہ عرب کے اندر ہی مركوز رکھی تاکہ یہاں انقلاب آ جائے۔ دس برس تک آپ نے نکلے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ سوائے اس کے کہ عکاظ کا جو ملیہ لگتا تھا جس میں آس پاس کے قبائل چلے آتے تھے، کبھی کبھار آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ آپ نے پورے دس برس صرف کے میں اپنی دعوت پیش کی۔ اس کے بعد مزید آٹھ برس تک صرف جزیرہ نماۓ عرب تک محدود رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے صرف نامہ ہائے مبارک بھیجنے شروع کیے۔ آپ نے ہرقل شاہ روم، خسر و پریشان شاہ ایران، مقوش شاہ مصر اور نجاشی شاہ جشہ کو نامہ ہائے مبارک بھیجے۔ وہ نجاشی اب فوت ہو چکے تھے جو حضور ﷺ پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کا شمارتالعین میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ملاقات حضور ﷺ سے نہیں ہو سکی۔ جو صحابہ کرام نبی ﷺ پر ایمان لے آئے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے نامہ ہائے مبارک لے کر جانے والے ایجیوں میں سے ایک ایجی کو سلطنت روما کے باج گزاروں نے قتل کر دیا، الہزار ما سے گلکار اور شروع ہو گیا۔ چنانچہ پہلے غزوہ موئہ اور پھر غزوہ تبوک ہوا۔ آپ ﷺ میں ہزار نفری لے کر تبوک میں بیس دن تک مقیم رہے۔ شہنشاہ ہرقل چونکہ یہ پچانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس لیے وہ مقابله میں نہیں آیا، حالانکہ وہ لاکھوں کی فوج کے ساتھ شام میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ہر حال آپ ﷺ نے عرب کے باہر انقلاب کی توسعہ کا آغاز اپنی حیاتِ طیبہ میں فرمایا تھا۔

پھر خلفاء راشدین کے دور میں اسلامی افواج نے تین اطراف میں پیش قدمی کی ہے۔ ایک لٹکر سیدھا شمال کی سمت بڑھتا ہوا ایشیا کے کوچک کی طرف گیا۔ دوسرا لٹکر مشرق کی سمت بڑھا اور عراق سے ہوتے ہوئے ایران، ترکستان جو کہ اس زمانے میں بہت بڑا ملک تھا، اور خراسان کی طرف پیش قدمی کرتا گیا۔ جبکہ تیسرا لٹکر ذرا سامغرب کی طرف مرتے ہوئے شام اور فلسطین سے ہوتا ہوا صحرائے سینا سے گزر کر مصر اور پھر لیبیا وغیرہ کو اسلام کا سایہ رحمت عطا کرتا ہوا کرواقیانوس تک پہنچا۔ اس طرح پہلے تین خلفائے راشدین کے دور میں صرف ربع صدی کے دوران دریائے ہیجنوں سے جراویقیانوس تک (From Oxus to Atlantic) اور ادھر شمال میں کوہ قاف تک، اس پورے علاقے میں انقلابِ محمدی بُرپا ہو گیا اور خلافت علی منہاج الدُّوَّة کا نظام نافذ ہو گیا۔ یہ ہے عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کے سفر کی داستان جس کے چند خود خال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کا ظہور کامل — کب اور کسے؟

اب آخری نکتہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ کی اس عظمت کا آخری اور کامل ظہور ابھی باقی ہے۔ قرآن مجید میں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحُقْقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الِّدِّينِ كُلِّهِ﴾ (التوبۃ: ۳۳، الفتح: ۲۸)

”وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا پہنچ رسول (محمد ﷺ) کو الہدی (یعنی قرآن حکیم) اور دین حق دے کرتا کہ غالب کرے اس (دین حق) کو پورے کے پورے نظامِ زندگی پر۔“

اس موضوع پر میری کتاب ”نبی اکرم ﷺ کا مقصدِ بعثت“ میں اس آیتِ مبارکہ پر ۲۲ صفحات پر مشتمل مقالہ شامل ہے۔ مذکورہ بالآخر آیت کی رو سے بعثتِ محمدی کا مقصد غالباً دین ہے، جبکہ بعثتِ محمدی تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہضمون قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں پانچ مرتبہ آیا ہے، لیکن اس سمن میں اہم ترین آیت یہ ہے کہ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبا: ۲۸)

”ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو (اے محمد ﷺ) مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔“

اس صغریٰ کبریٰ کو جوڑ لیجیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعثتِ محمدی علی صاحبہا اصولہ و السلام کا مقصد تمام و کمال صرف اُسی وقت پورا ہو گا جب کہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو گا۔ ورنہ

نور	توحید	کا	امتنام	ابھی	باقی	ہے	کہاں	کام	ابھی	باقی	ہے

احادیثِ نبوی میں قیامت سے قبل عالمی غلبہ اسلام کی صریح پیشین گوئی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر نظامِ خلافت علی منہاج الدُّوَّة قائم ہو گا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا اور اُس وقت اصل میں رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تمام و کمال پورا ہو گا۔ آج سے چودہ سو سال پہلے خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی افواج نے جس طرح تین اطراف میں پیش قدمی کی تھی اس وقت اسلام کا عالمی غلبہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا تھا۔ شمال کی طرف جانے والی افواج نے ایشیا کے کوچک میں جا کر دم لیا تھا اور مشرق اور مغرب میں اس تیزی سے فتوحات ہو رہی تھیں کہ ع ”رکت نہ تھا کسی سے سیلِ رواں ہمارا!“ کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اس سیلِ رواں کو روک سکے، لیکن اُس وقت اسلامی انقلاب کو اندر و فی طور پر سبوتاش کیا گیا۔ عبد اللہ بن سباء نامی ایک یہودی نے اسلام کا البادہ اور ہدا اور اندر و فی طور پر انتشار و خلفشار پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا۔ اسی خلفشار کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفیؓ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اور اس کے بعد چار برس تک مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی جس میں ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہو گئے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ نہ صرف رک گیا بلکہ رجعت قبوری کا شکار ہو گیا۔ لیکن

اسلام کے عالمی غلبے کا یہ کام ہونا ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔ اور قرآن بتا رہے ہیں کہ وہ وقت اب دُور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال جو بڑے دور اندیش (Visionary) تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے کہ ”گاہ مری نگاہ نیز چیرگی دل وجود“، انہوں نے دل وجود کو چیر کر دیکھ لینے والی نگاہ سے مستقبل کے پروار کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا کیف ہو گا جبکہ جامع مسجد قرط طبے کے باہر بہنے والے دریا کے کنارے علامہ نے اپنا یہ وعداں پیش کیا۔

آب روائی کبیر تیرے کنارے کوئی
دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
عالم نو ہے ابھی پرداز تقدیر میں
میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب
پردوہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے
لا نہ سکے گا فرنگ میری نواوں کی تاب!

علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں۔

آسمان ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیماں پا ہو جائے گی!
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام
پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی!
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں
محو جیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی!
شب گریزان ہو گی آخر جلوہ خورشید سے!
یہ چہن معمور ہو گا نغمہ توحید سے!!

پس یہ دو رتو آ کر رہے گا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بھی اسی طرح آئے گا جیسے «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ» کی محنت اور قربانیوں سے آیا تھا۔ وہ لوگ سر اسر محروم رہ گئے جو اس دور میں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے اس جدوجہد میں حصہ نہ لیا۔ وہ کفر کے دامن سے وابستہ رہے یا انہوں نے نفاق کا البابہ اور ٹھہر لیا۔ وہ لوگ انتہائی بد بخت اور محروم تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کا دور سعادت پایا لیکن آپ کے دست و بازو نہ بنے۔ ان کے لیے روحانی ترقی، مقاماتِ بلند اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے کس قدر موقع تھے، لیکن وہ لوگ محروم رہ گئے۔ اور جنہوں نے: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيْشَادُهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بِيَنَهُمْ وَالَّذِينَ اخْتَيَرُوكُمْ وَهُوَ كَمِيلٌ» اور وہ لوگ جوان کے ساتھ ہیں کفار پر بہت سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اور جنہوں نے کامیاب تجارت کا راستہ اختیار کیا وہ سرخ رو ہو گئے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا:

﴿يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِي كُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ (آیت ۱۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! میں تمہاری راہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ ایمان لا و اللہ اور اس کے رسول (علیہ السلام) پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔“

یہ سورہ مبارکہ ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا اُنْصَارَ اللَّهِ﴾

”اے ایمان والو! اللہ کے مدگار بنو!“

اس کے بعد الفاظ آتے ہیں:

﴿مَنْ اُنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾

”کون یہی میرے مدگار اللہ کے راستے میں؟“

تو جان بیجیے کہ اسلام کا عالمی انقلاب پکار رہا ہے اور ”مَنْ اُنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“ کی آواز ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے حق و باطل کی آویزش کے بارے میں کہا تھا:

ستزہ	کار	رہا	ہے	ازل	سے	تا	امروز
چراغ	مشطفوی	سے	شرار				
حق و باطل کی جگہ ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی شان اور ایک نئی بیت کے ساتھ آنے والی ہے۔ بقول علامہ اقبال۔							
دنیا	کو	ہے	پھر	معمرکہ	روح	و	بدن
تہذیب	نے	پھر	اپنے	درندوں	کو		ابھارا!
اللہ	کو	پامردی	مؤمن	پ	بھروسہ		
اللیس	کو	یورپ	کی	مشینوں	کا		سہارا!

قرآن کے الفاظ میں ”بَاسْ شَدِيدٌ“ اور حدیث نبویؐ کے الفاظ میں ”الْمُلْحَمَةُ الْعُظُمَىُ“، ”عَقْرِيبٌ آنے والی ہے۔ یہ زیادہ درجنہیں ہے۔ اس معمرکہ حق و باطل کے لیے ”کُوْنُوا اُنْصَارَ اللَّهِ“ کی پکارتائی دے رہی ہے۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ ﷺ نے پکارتھا:

(إِلَيْ يَا عَبَادَ اللَّهِ إِلَيْ يَا أَصْحَابَ الْبَدْرِ إِلَيْ يَا اَصْحَابَ الشَّجَرَةِ)

”میری طرف آؤ اور اللہ کے بندو! کہاں جانے والے ہو؟ اے بدر میں ساتھ دینے والا وحدیبیہ میں بیعت علی الموت کرنے والا! میری طرف آؤ!“

آج بھی یہ پکار بالفعل موجود ہے۔ کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے؟ جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہمارا عملی تعلق۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ عید میلاد کی محفلیں اور جلوس زکا لنا حب رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن ایک کر دیا جائے۔ حب رسول کے تقاضے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا جنہوں نے اپنا سب کچھ شارکر دیا۔ ایک وقت میں گھر میں جھاڑ و پھیر کر سارا مال حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تھا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے۔ محفلیں منعقد کر لینا، کھڑے ہو کر سلام پڑھ لینا یا جلوس زکا لینا حب رسول نہیں ہے! حب رسول تو یہ ہے کہ خلافت علی مہاجن الدبّۃ کے قیام کی جدوجہد میں جان، مال اور وقت کھپا دیا جائے۔ اس ضمن میں آپ میرے دو کتابچے ”حب رسول“ اور اس کے تقاضے“ اور ”نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی نیادیں“ کا مطالعہ کیجیے، ان میں ایک پورا پیغام عمل اور دعوت عمل موجود ہے۔ اسلام کا عالمی غلبہ اور نظامِ خلافت کا قیام ایک شدنی امر اور ایک اصل حقیقت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہاں فرق صرف اس میں واقع ہو گا کہ کون درجاتِ عالیہ کے حصول کے شہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاش خیر و شر اور روح و بدن کے درمیان جو معرکہ درپیش ہے، اس کا پھر ایک climax جاؤ نے والا ہے، اس میں حق کے سپاہی اور اللہ کے دین کے خادم بن کر قرآن حکیم کے ان الفاظ کی عملی تصویر بن جائیں:

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

اس کے لیے عزم مصمم اور فیصلہ کریں کہ ہمیں اسی جدوجہد میں اپنے آپ کو ہمت جھوک دینا ہے۔

أَقُولُ فَوْلِيُّ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

حوالہ جات

- ۱) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصوم وصحیح البخاری (قدر مختلف الفاظ کے ساتھ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنۃ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين۔
- ۲) مسنند احمد، ح ۲۲۹۷۸
- ۳) سنن الترمذی، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب فی فضل الشام والیمن۔
- ۴) مسنند احمد، ح ۱۰۵۹۳ و ۱۶۱۶۸ و ۱۸۵۲۵ و ۲۲۶۸۱ و ۲۲۶۴۰
- ۵) صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن، باب وانذر عشيرتك الاقربین و باب قوله ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، و باب قوله سیصلی نارا ذات لهب۔ و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی قوله وانذر عشيرتك الاقربین۔
- ۶) صحیح البخاری، کتاب الاجارة، باب رعی الغنم على قراريط
- ۷) سنن ابن ماجہ، کتاب الفتنه، باب الصبر على البلاء۔ و مسنند احمد، ح ۱۲۷۲۵
- ۸) سیرت ابن هشام بحوالہ تاریخ الطبری ۳۴۵۱۲
- ۹) صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في معصية۔ و صحیح البخاری (اختصار کے ساتھ) کتاب الاحکام، باب کیف یبایع الامام الناس۔
- ۱۰) مسنند احمد، ح ۱۳۵۶۳ (الفاظ مختلف ہیں)